

تبلیغی جماعت

اور اس کی دعوت کے اصول و آداب



حضرت مولانا محمد یوسف کاظمی طبوی

شتمہ
ڈاکٹر عبد الرحمن شکر
پیغمبر جماعت اسلامیہ
حکیمہ پیریہ بنت حکیمہ

ڈارالفنون

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

اشاعت اول ۱۴۲۹ھ - ۲۰۰۸ء

ناشر

دار القلم کراچی

فہرست مضمایں

صفہ نمبر

۵	پیش لفظ
۸	مقدمہ تبلیغی جماعت کا مختصر تعارف
۱۰	تبلیغی جماعت کے بارے میں میری رائے
۱۳	تبلیغی جماعت کے بارے میں بعض شبہات اور ان کا ازالہ
۲۱	پاکستان کی تبلیغی جماعت کے بارے میں فضیلۃ الشیخ صالح بن علی الشویمان کی روپورٹ
۲۸	مکتوب گرامی حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلوی رحمہ اللہ
۲۹	کامیابی اور ناکامی کا انحصار
۳۰	ایمان باللہ
۳۰	ایمان بالرسالت
۳۰	ایمان و یقین کا نتیجہ اور اس کے دعوت
۳۰	نماز کا اہتمام اور اس کی دعوت
۳۱	علم اور ذکر
۳۲	اکرام مسلم
۳۲	حسن نیت
۳۳	اللہ کے راستے کی محنت اور دعا
۳۴	مسجدوں میں کرنے کے کام
۳۵	مقامی گشت و اجتماع
۳۵	ہر مہینے کی سروزہ جماعت
۳۶	چلدے اور تین چلے لگانا اور ان کی دعوت دینا
۳۶	گشت اور اس کی اہمیت

۳۶	گشت کا موضوع اور دعوت
۳۷	گشت کے آداب کا بیان
۳۸	گشت کا طریقہ
۳۸	اجتماع میں دعوت
۳۹	مطالیہ اور تشكیل
۳۹	دعوت کا انداز
۴۰	تعلیم
۴۱	مشورہ
۴۲	ہفتہ واری اجتماع
۴۲	کام کی نزاکت اور اس کا علاج
۴۳	اصول اور صحبت
۴۴	نقشوں کے بجائے مجہدہ
۴۵	کانچ کے طلبہ میں دعویٰ کام
۴۵	مستورات میں کام کی نوعیت
۴۶	آخری بات
۴۷	راہ خدام میں نکلنے والے تبلیغی جماعتوں کو الوداعی پیغام و ہدایات
۴۸	نور و اے اعمال
۴۹	دو و سین
۴۹	دشمنوں سے حفاظت کا طریقہ
۴۹	رضائے الہی
۵۲	اصل کام صرف چار
۵۵	چار باتیں جن سے رکا جائے

ڈاکٹر عبد الرزاق اسکندر

بیش لفظ

بسم اللہ الرحمن الرحيم

الحمد لله الذي بعث الأنبياء والرسول لهداية العباد،
وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا محمد، خاتم الأنبياء
والرسل، أرسله بالهدى ودين الحق، بشيراً ونديراً، وداعيا إلى
الله بإذنه وسراجاً منيراً، وعلى آله وصحبه، ومن تبعهم بإحسان
ودعا بدعوتهم وسلك سبيلهم إلى يوم الدين. وبعد:

۱۹۸۲ء کا واقعہ ہے کہ کراچی ائرپورٹ پر ایک عرب اسلامی ملک کے وزیر اوقاف سے میری ملاقات ہوئی، وہ پاکستان کی وزارت اوقاف کی جانب سے منعقدہ سیرت کانفرنس میں شرکت کے لئے اسلام آباد جا رہے تھے، وزیر موصوف کے ساتھ دینی موضوعات پر گفتگو ہوتی رہی، حسن اتفاق کہنے کہ اسلام آباد جانے والی فلاٹ لیٹ ہو گئی تو ہماری ملاقات کی نشست بھی لمبی ہو گئی، یوں وزیر موصوف مجھ سے کافی مانوس ہو گئے اور مجھ سے کہنے لگے کہ: کیا آپ مجھے تبلیغی جماعت... جس کا مرکز ہندوستان اور پاکستان میں ہے... اور اس کے لائحہ عمل کے بارے میں کچھ معلومات فراہم کر سکتے ہیں؟

اور انہوں نے مجھ سے فرمائش بھی کی کہ میں جماعت کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار کروں، اس کے ساتھ ہی انہوں نے مجھے اپنے ملک میں ہونے والی ایک

اسلامی کانفرنس میں شرکت کی دعوت بھی دے دی جو ایک ماہ بعد ہونے والی تھی۔ میں نے ان کی دعوت قبول کر لی اور کہا کہ: جب میں کانفرنس میں شرکت کے لئے آؤں گا تو انشاء اللہ آپ کو مطلوبہ معلومات پیش کر دوں گا۔

اس کے بعد میں نے کراچی جماعت کے بعض ذمہ دار حضرات سے رابطہ کیا کہ اگر جماعت سے متعلق عربی میں لکھی ہوئی کچھ معلومات ہوں تو وہ میں ساتھ لیتا جاؤں، اور عرب حضرات کو پیش کروں، مگر جماعت کے ذمہ دار حضرات نے اس سے علمی کا اظہار کیا، کیونکہ جماعت کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا ہے زیادہ تر اردو میں ہے، جب میری روائی میں صرف دو تین دن باقی رہ گئے تو ہمارے محلہ علامہ بنوری ٹاؤن کی جماعت کے امیر: بھائی نذیر صاحب میرے پاس تشریف لائے اور حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلویؒ... حضرت جی... سابق امیر کے ایک مفصل مکتوب کی فوٹو کا پی لائے جوانہوں نے ایک ایسی جماعت کو لکھا تھا جو اللہ کی راہ میں دعوت کے لئے نکلی ہوئی تھی۔ اس تفصیلی خط میں حضرت جیؓ نے جماعت کے لائجے عمل اور چہ نمبروں کو نہایت شرح و بسط سے ذکر کیا تھا، جن کو جماعت نے اپنی دعوت کی بنیاد قرار دیا ہے۔ الحمد للہ! اس تفصیلی خط کے ملنے سے مجھے خوشی ہوئی کہ میں وزیر موصوف سے کئے گئے وعدہ کا ایفا کر سکوں گا۔ غالباً دوسرے دن میرا سفر تھا، لہذا میں نے جہاز میں بیٹھتے ہی اس تفصیلی خط کا عربی ترجمہ شروع کر دیا۔ الحمد للہ! کہ جہاز جوں ہی منزل مقصود پر پہنچا میں اس کا ترجمہ مکمل کر چکا تھا۔

چونکہ وزیر موصوف نے جماعت کے بارے میں میری ذاتی رائے کا بھی مطالبہ کیا تھا، اس لئے میں نے اپنی معلومات، مشاہدات اور جماعت کے ذمہ دار حضرات کے بیانات کی روشنی میں اپنی رائے بھی لکھ دی، جب وزیر موصوف سے ملاقات ہوئی تو حسب وعدہ ان کو یہ معلومات پیش کر دیں۔ وزیر موصوف اس ایفائے

عہد پر بہت خوش ہوئے اور شکر یہ ادا کیا۔

سفر سے واپس آنے کے بعد میں نے مناسب سمجھا کہ اسے کتابی شکل میں چھپوادوں، تاکہ ہمارے جو بھائی دعوت کے کام میں لگے ہوئے ہیں، وہ اسے پڑھ کر بصیرت کے ساتھ محنت کر سکیں، چنانچہ اسے کتابی شکل میں شائع کر دیا گیا اور عرب بھائیوں نے اسے بہت پسند کیا اور دعا میں دیں، تادم تحریر اس کے چھ ایڈیشن چھپ چکے ہیں۔

چونکہ حضرت جی کا یہ خط الگ کتابی شکل میں نہیں چھپا، بلکہ ان کی سوانح کے ضمن میں چھپا ہے، اس لئے بہت سے حضرات اس سے ناواقف ہیں۔
عربی ترجمہ چھینے کے بعد بعض حضرات نے مشورہ دیا کہ: اگر اردو خط بھی کتابی شکل میں شائع کر دیا جائے تو اردو دان حضرات کو... جو اس کام میں لگے ہیں... بھی بہت فائدہ اور بصیرت حاصل ہوگی۔

چنانچہ اس مشورہ پر عمل کرتے ہوئے اب اسے کتابی شکل میں شائع کیا جا رہا ہے، تاکہ اس کا فائدہ عام ہو۔

سب سے پہلے ایک مقدمہ ہے، جس میں جماعت کا مختصر تعارف، بعض غلط فہمیوں کا ازالہ ہے اور پھر حضرت مولانا محمد یوسف صاحبؒ کا وہ مفصل خط ہے، جس میں انہوں نے جماعت کا لائز عمل اور چنبروں کی تشریح کی ہے۔ اللہ تعالیٰ اسے نافع بنائے۔

عبدالرزاق اسکندر

مقدمہ

تبیغی جماعت کا مختصر تعارف

تقریباً ایک صدی قبل متحده ہندوستان کے ایک بہت بڑے عالم اور بزرگ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ نے دیکھا کہ ہندوستان میں مسلمانوں کی دینی حالت افسوسناک حد تک ابتری کا شکار ہے۔ نیز انہوں نے دیکھا کہ ہندوستان کے بعض علاقوں میں مسلمان صرف اسلام کا نام تو جانتے ہیں مگر ان کو کلمہ اسلام: ”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا شَرِيكَ لَهُ“ کا صحیح تلفظ تک بھی نہیں آتا۔

الہذا مسلمانوں کی یہ حالت دیکھ کر حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کو دکھ اور صدمہ ہوا اور سونپنے لگے کہ مسلمانوں کی اصلاح اور تربیت کے لئے کس طرح کام شروع کیا جائے؟

چنانچہ اس مقصد کے لئے انہوں نے حج کا سفر اختیار کیا، وہاں جا کر مشاعر حج اور حر میں شریفین میں مقدس مقامات پر نہایت عجز و انکسار کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا میں مانگتے رہے کہ: اے اللہ! میرے لئے عام مسلمانوں میں دعوت کا راستہ کھول دے، اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی اور اس کے لئے ان کا سینہ کھول دیا گیا۔

چنانچہ آپ حج کے بعد ہندوستان واپس تشریف لائے اور ہندوستان کے دارالحکومت دہلی سے باہر بستی نظام الدین سے دعوت کا کام شروع کر دیا۔

آپ کا معمول تھا کہ آپ شہر کے بازاروں، گاؤں اور قصبوں میں جاتے اور مسلمانوں کو اللہ کی طرف دعوت دیتے اور مساجد اور تعلیم کے حلقوں سے جتنے کی ترغیب دیتے، تاکہ وہ اس طرح ایمان، نماز اور اسلام کے بنیادی مسائل یکھیں، اور ان بنیادی مسائل اور اسلامی آداب کو خود سکھنے، عملی طور پر اپنانے اور دوسروں کو

سکھانے کے لئے ان سے مطالیبہ کرتے تھے کہ اپنے خرچ پر مہینہ میں تین دن، سال میں چالیس دن اور عمر بھر میں چار ماہ کے لئے اللہ کی راہ میں نکلیں۔

اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ کی مخلصانہ محنت میں برکت عطا فرمائی اور ان کے ارد گرد پاک سیرت اہل ایمان افراد کی ایسی جماعت جمع ہو گئی جن کا تعلق معاشرے کے ہر طبقہ سے تھا، اس میں تاجر، کاشتکار، سرکاری اور غیر سرکاری ملازم، اساتذہ، طلبہ اور مزدور وغیرہ سب ہی تھے۔

حضرت مولانا محمد الیاس رحمہ اللہ نے اس جماعت کے لئے کچھ قواعد و ضوابط وضع فرمائے، جن میں سے بعض کو یہاں ذکر کیا جاتا ہے:

۱: اپنے خرچ پر نکلنا۔ لہذا جو شخص بھی اللہ کی راہ میں نکلے وہ اپنی جیب سے خرچ کرے، کسی تنظیم کی طرف سے یا چندہ لے کرنے جائے، اس لئے اگر کسی کو فرصت نہیں یا خرچ کی طاقت نہیں، وہ اپنے محلہ کی مسجد میں اور مقامی کام میں بڑتا رہے۔

۲: سیاسی امور میں دخل اندازی سے دور رہے۔

۳: اجتہادی، فروعی اور فقہی مسائل کو نہ چھیڑا جائے اور ہر شخص نے جو بھی فقہی مسلک اختیار کیا ہوا ہے، اسی پر عمل کرے یا اس مسلک پر، جو اس ملک میں رائج ہو اور پوری توجہ اور اہتمام سے ایمان، یقین، اخلاص، نماز، علم، ذکر، مسلمانوں کے اکرام اور ان کے حقوق کا خیال رکھے، دعوت اور خروج فی سبیل اللہ میں مصروف رہے۔

اللہ تعالیٰ نے اس بزرگ کی محنت میں ایسی برکت عطا فرمائی کہ جو دعوت ایک قریب اور بستی سے شروع ہوئی تھی وہ ترقی کرتے کرتے ایک عالمی اور بین الاقوامی دعوت بن گئی۔ اس جماعت کے بارے میں یہ میری معلومات ہیں۔ ولا از کی علی اللہ احداً۔

وصلی اللہ علی سیدنا محمد و علی آلہ و صحبہ وسلم

تبیغی جماعت کے بارے میں میری رائے!

میں سمجھتا ہوں کہ اس جماعت کا کسی ملک میں جانا، وہاں کے عوام اور وہاں کی حکومت دونوں کے لئے باعث رحمت ہے، کیونکہ یہ جماعت ایک عام فرداً اور شہری کی اصلاح پر محنت کرتی ہے، تاکہ وہ ایک ایسا اچھا شہری بن جائے جو اپنے خالق کا وفادار، اور نہ صرف اپنے وطن اور اہل وطن کا خیر خواہ ہو، بلکہ ساری انسانیت کے لئے فکرمند ہو جائے، وہ ایسی کوئی حرکت نہ کرے جس سے وطن اور اہل وطن کو نقصان پہنچے، وہ چوری نہ کرے، کسی کو ناحق قتل نہ کرے، کسی کا مال نہ لوئے، کسی کی عزت پر حملہ نہ کرے، جھوٹ نہ بولے اور نہ کسی کو دھوکا دے، بلکہ وہ دوسروں کے لئے وہی پسند کرے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے۔

یہ وہ اوصاف ہیں جو حکومت اور عوام دونوں کے حق میں مفید ہیں۔

حکومتیں عام طور پر اسلامی ہوں یا غیر اسلامی، اپنی بگڑی ہوئی عوام سے نالاں ہوتی ہیں اور دہشت گردوں، چوروں، ڈاکوؤں اور منشیات اور مسکرات کے استعمال کرنے والوں کا شکوہ کرتی ہیں اور ان جرائم کو روکنے کے لئے قوانین اور سزا کیں وضع کرتی ہیں، لیکن ان سے کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں ہوتا۔

لیکن تبیغی جماعت کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ تعلیم و تربیت کے ذریعے مسلمانوں کے نفوس میں ایسا ملکہ اور ایسی اخلاقی قوت پیدا کر دے جو انہیں ان جرائم کے ارتکاب سے روکے اور ان جرائم سے دلوں میں نفرت پیدا کر دے اور انہیں ایسی صفات اور اعلیٰ اخلاق اپنا نے کی ترغیب دیتی ہے جن سے عوام اور حکومت دونوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔

حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے:
 ”الَّذِينَ النَّصِيْحَةُ؟ قُلْنَا: لِمَنْ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: لِلَّهِ وَلِرَسُولِهِ وَلِكَتَابِهِ وَلَا إِمَّةٌ مُسْلِمِيْنَ وَعَامَتِهِمْ.“
 (مکلوۃ، ص: ۲۲۳)

ترجمہ: ”دین خیر خواہی کا نام ہے، ہم نے عرض کیا: کس کے لئے؟ یا رسول اللہ! فرمایا: اللہ کے لئے، اس کے رسول کے لئے، اس کی کتاب کے لئے اور مسلمانوں کے حکمرانوں کے لئے اور عام مسلمانوں کے لئے۔“

یقینی بات ہے کہ جب فرد کی اصلاح ہو گی تو اس سے پورے معاشرہ کی اصلاح ہو گی، ملک میں امن و امان کی فضاء پیدا ہو گی، روحانی و اخلاقی قدر میں عام ہوں گی اور لوگ امن و امان کی زندگی برکر سکیں گے۔

دیکھا جائے تو عموماً حکومتیں دو باقوں سے گھبراتی ہیں:
 ا:- ایک یہ کہ باہر سے کوئی اجنبی آئے اور آ کر ملک کی سیاست میں دخل اندازی کرے۔

۲:- دوسرا یہ کہ کوئی اجنبی باہر سے آ کر عوام الناس میں اختلاف پیدا کرے۔
 ان دونوں باقوں میں حکومت کو اس جماعت سے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہئے، کیونکہ وہ سیاست میں دخل نہیں دیتی اور نہ ہی وہ عوام میں اختلاف پیدا کرتی ہے۔
 تبلیغی جماعت کا پاکستان اور ہندوستان میں مرکز ہے، جہاں اسے یہ قانونی حق حاصل ہے کہ وہ سیاست میں حصہ لے، لیکن اس نے رضا کارانہ طور پر اپنا یہ حق چھوڑ رکھا ہے، لہذا جو جماعت اپنے ملک میں اپنا سیاسی حق استعمال نہیں کرتی، وہ دوسرے ملک میں کیسے سیاست میں حصہ لے گی، جہاں اسے اس کا کوئی حق ہی حاصل

نہیں؟ الہذا کسی ملک کی حکومت کو اس جماعت سے کوئی سیاسی خطرہ نہیں۔

باقی رہایہ کہ عوام میں اختلاف پیدا کرنا اور ان کی صفوں میں پھوٹ ڈالنا تو اس اعتبار سے بھی جماعت سے کوئی خطرہ نہیں ہونا چاہئے، کیونکہ تبلیغی جماعت کا محور ہی دین کی بنیادی باتیں اور ایسے امور ہیں، جن پر پوری امت کا اتفاق ہے، وہ فروعی اور اجتہادی مسائل کوئی چھیڑتی، جس سے اختلاف پیدا ہونے کا امکان ہے۔

بطور مثال: ہم دیکھتے ہیں کہ جماعت ایک مسلمان کو نماز کی دعوت دیتی ہے، جو کہ دین کا ایک بنیادی ستون ہے اور جس کی فرضیت میں کسی کا اختلاف نہیں، نیز وہ مسلمان کو اس بات کی دعوت دیتی ہے کہ وہ اپنا تعلق مسجد سے جوڑے، اس میں بھی کسی مسلمان کو کوئی اختلاف نہیں۔

اب اگر کوئی مسلمان ان کی بات مان لیتا ہے اور مسجد سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے اور نمازوں کی پابندی شروع کر دیتا ہے تو الحمد للہ! مقصد حاصل ہو گیا۔ اب تبلیغی جماعت کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ وہ نوجوان اپنی نماز فتحی، مالکی، شافعی اور حنبلی وغیرہ میں سے کس کے مطابق ادا کرتا ہے، الہذا اس اعتبار سے بھی کسی حکومت کو فکر مند نہیں ہونا چاہئے۔

یہی وجہ ہے کہ ہم دیکھتے اور سنتے ہیں کہ بہت سی اسلامی اور غیر اسلامی حکومتیں جنہوں نے اس جماعت اور اس کی دعوت کی حقیقت کو جان لیا ہے، انہوں نے اس کے لئے اپنے ملک کے دروازے کھول دیئے ہیں اور وہ اس کے لئے سہولتیں مہیا کرتی ہیں، نیز ان کی عوام بھی اپنے ملک میں اس کا استقبال کرتی ہے اور اسے دیکھ کر خوش ہوتی ہے۔

تبليغی جماعت کے بارے میں بعض شبہات اور ان کا ازالہ

یہ بات سب کو معلوم ہے کہ تبلیغی جماعت میں عوام الناس کے ہر طبقہ کے لوگ شریک ہوتے ہیں، علماء، طلبہ، تاجر، ملازم، کسان اور مزدور وغیرہ۔ اب ان میں سے ہر ایک شخص تو ایسا نہیں ہوتا کہ جس کی کامل اصلاح اور تربیت ہو چکی ہو، اسی لئے بعض اوقات ان میں سے کسی سے کوئی نامناسب حرکت سرزد ہو جاتی ہے تو بعض جذباتی حضرات فوراً اس فرد کی اس غلطی کو جماعت کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ انصاف کے خلاف ہے۔ انصاف یہ ہے کہ یہ غلطی اس فرد کی طرف منسوب کی جائے نہ کہ جماعت کی طرف، کیونکہ جماعت خود اسے غلط سمجھتی ہے۔

ایک اسلامی ملک کے سفر کے دوران میری ملاقات ایک ایسے ادارے کے ذمہ دار شخص سے ہوئی جو انسداںِ نشیات کا سربراہ تھا۔ اپنے ادارہ کا تعارف کرتے ہوئے اس نے کہا کہ ہمارا کام یہ ہے کہ قانون اور سزاویں کے ذریعہ نوجوانوں کو نشیات وغیرہ سے روکیں۔

میں نے اس سے کہا کہ: یہ بہت اچھی بات ہے۔ ملک میں ایسے قوانین اور سزاویں ہونی چاہئیں جن کے ذریعہ لوگوں کو نشیات اور دیگر جرائم سے روکا جاسکے، خصوصاً: اسکول اور کالج کے طلبہ کو جو مستقبل کا سرمایہ ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور راستہ بھی ہے جس کے ذریعہ نوجوانوں کو نشیات و مسکرات کے استعمال اور بے راہ روی سے روکا جاسکتا ہے اور ملک کو ان جرائم سے پیدا ہونے والی مشکلات سے بچایا

جا سکتا ہے؟

چنانچہ اس کی صورت یہ ہے کہ ان نوجوانوں کو دین کی راہ پر ڈال دیا جائے اور ان کے دلوں میں ایمان کی روح پیدا کی جائے، تاکہ وہ نیک اور صالح شہری بن جائیں اور خود بخوبی اسی قانون اور سزا کے خوف سے منشیات اور بے راہ روی کو چھوڑ دیں۔ نہ ان سے کسی کا ناحق قتل ہو، نہ کسی کامال لوٹیں، نہ کسی کی عزت پر حملہ کریں اور نہ ہی حکومت اور عوام کے لئے مسائل پیدا کریں، بلکہ اپنے فرائض نہایت ذمہ داری اور پوری امانت داری سے ادا کریں۔

مزید میں نے ان سے یہ کہا کہ: گذشتہ رات مجھے اپنے ساتھ آپ کے شہر کے تبلیغی مرکز میں جانے کا اتفاق ہوا، جہاں نوجوانوں کا ایک بڑا مجمع تھا، جن کی اکثریت اسکول اور کالج کے اساتذہ اور طلبہ کی تھی، ان کے چہروں پر ایک نور اور وقار ہو یدا تھا، جن سے یہ امید نہیں کی جاسکتی کہ وہ منشیات یاد گیر جرام کا ارتکاب کریں گے۔ وہ صاحب کہنے لگے کہ: یہ بات بالکل صحیح ہے، ہم نے بھی دیکھا ہے کہ جو لوگ اس جماعت کے ساتھ جڑ جاتے ہیں، ان پر صلاح و تقویٰ کے آثار نمایاں ہوتے ہیں اور وہ منشیات یاد گیر جرام سے دور بھاگتے ہیں۔ لیکن ہمیں جماعت سے دو شکوئے ہیں:
۱:- ایک یہ کہ جب کوئی ملازم پیشہ شخص ان سے متاثر ہو کر کچھ وقت ان کے ساتھ لگاتا ہے، مثلاً: ایک چلے۔ تو بعض مرتبہ یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ وہ شخص چلد لگانے کے بعد اسی جماعت کا ہو کر رہ جاتا ہے، اسے نوکری کی پرواہ ہوتی ہے اور نہ بیوی بچوں کی فکر۔ ادھر فتر والے پوچھ رہے ہیں، ادھر گھروالے پریشان۔

۲:- اسی طرح یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ اسکول یا کالج کا جو طالب علم چھٹی کے دنوں میں جماعت کے ساتھ نکل جائے تو وہ تعطیلات ختم ہونے کے بعد بھی جماعت کے ساتھ چلتا رہتا ہے اور وہ اسکول چھوڑ دیتا ہے، اسے تعلیم کی فکر ہوتی ہے اور نہ

والدین کی پرواہ۔

میں نے ان سے کہا: پیشک اس طرح کے اکاڈمک اوقاعات ہمارے ہاں بھی پیش آتے ہیں، لیکن یہ انفرادی کوتاپیاس ہیں، ان کا جماعت کی پالیسی سے کوئی تعلق نہیں، لہذا ان کوتاپیاس کو ان افراد کی طرف منسوب کرنا چاہئے نہ کہ جماعت کی طرف۔

اس لئے کہ جماعت والے کسی ملازم پیشہ شخص یا طالب علم کو ہرگز نہیں کہتے کہ: تم اپنی ملازمت چھوڑ دو یا اسکول اور کالج کی تعلیم ترک کرو اور جماعت میں لگ جاؤ، بلکہ وہ تو یہ کہتے ہیں کہ: بھائی! رخصت کے ایام ہمارے ساتھ گزارو، پھر اخلاص اور دیانتداری سے اپنا کام کرو۔

پھر میں نے کہا کہ: ہمارے جامعہ کی مسجد میں ہر ہفتہ جماعت کا اجتماع ہوتا ہے، جس میں طلبہ اور محلہ کے لوگ بیٹھتے ہیں اور جماعت کے کسی بزرگ کا بیان ہوتا ہے، ہم نے آج تک کسی کی زبان سے یہ نہیں سنا کہ وہ طلبہ سے کہیں کہ تعلیم چھوڑ دا اور جماعت میں چلو، بلکہ وہ تو نہیں خوب پڑھنے اور محنت کی ترغیب دیتے ہیں، ہاں یہ ضرور کہتے ہیں کہ جمعہ کی رات مدنی مسجد... کراچی کے تبلیغ کے مرکز... میں آ جایا کریں، ۲۰-۱۸۔ کھنڈوں کے لئے جماعت میں نکلیں، کیونکہ اس دن چھٹی ہوتی ہے اور سالانہ چھٹیوں میں ایک چلدہ لگایا کریں۔

اصل بات یہ ہے کہ معاشرے کے ہر طبقہ میں اکاڈمک جذباتی افراد ہوتے ہیں، جن سے اس طرح کے غلط تصرفات صادر ہو جاتے ہیں، آخر آپ نے بھی تو ایسے ملازمین کا تذکرہ سنا ہوگا، جنہوں نے کسی دوسرا وجہ سے جذبات میں آ کر ملازمت چھوڑ دی یا ایسے طلبہ کا تذکرہ بھی سنا ہوگا جو اسکول یا کالج سے بھاگ گئے۔

لہذا ایسے تصرفات کی نسبت ان افراد کی طرف کرنی چاہئے نہ کہ جماعت کی طرف۔ کیونکہ جماعت کی یہ پالیسی ہرگز نہیں۔ وہ صاحب میری اس گفتگو سے کافی مطمئن ہوئے اور کہنے لگے کہ: واقعی عوام الناس کی اصلاح کا یہی صحیح طریقہ ہے۔

بعض مرتبہ ذہن میں شبہات اس لئے پیدا ہوتے ہیں کہ انسان شرعی احکام اور آداب سے ناقص ہوتا ہے۔

اسی طرح کا ایک قصہ ہے کہ ایک عرب ملک میں مجھے ایک عرب نوجوان ملا، جب تبلیغی جماعت کے بارے میں گفتگو شروع ہوئی تو وہ کہنے لگا کہ: یہ جماعت بہت اچھا اور مفید کام کر رہی ہے، مگر اس میں کچھ بدعتات ہیں، جن پر مجھے اعتراض ہے! میں نے اس نوجوان سے کہا کہ: آپ مجھے کسی ایک بدعت کی نشاندہی کرو جائیجے، تاکہ میں جماعت کے ذمہ دار حضرات تک آپ کی بات پہنچا سکوں۔

کہنے لگے: جب کوئی جماعت دعوت کے لئے نکلتی ہے تو کہتے ہیں: یہ ہمارا امیر ہے، حالانکہ یہ بدعت ہے۔ میں سمجھ گیا کہ یہ اعتراض یا اشکال اس کی دینی معلومات کی کمی کی وجہ سے ہے۔ اس لئے میں نے اس نوجوان سے پوچھا: آپ کہاں کام کرتے ہیں؟ کہنے لگا: میں وزارتِ اوقاف اور مذہبی امور میں کام کرتا ہوں۔

میں نے کہا: آپ کے دفتر میں کتنے ملازمین کام کرتے ہیں؟ کہنے لگا: اتنے ملازمین کام کرتے ہیں، غالباً میں سے پچیس تک بتائے۔

میں نے پوچھا: کیا ان ملازمین پر کوئی نگرانی بھی ہوتا ہے؟ کہنے لگا: ہاں! ایک مدیر ہوتا ہے جو ان کی نگرانی اور نظم قائم رکھتا ہے۔ میں نے کہا: کیا وزارتِ اوقاف اور مذہبی امور میں یہ بدعت نہیں کہ یہ مدیر ہے، اور یہ موظفین ہیں؟

کہنے لگا: یہ بدعت نہیں، بلکہ یہ ایک نظام ہے، اور نظام کا تقاضا ہے کہ ایک ایسا ذمہ دار شخص ہو جو سب کی نگرانی کرے، تاکہ نظام صحیح چل سکے۔

اس پر میں نے کہا: برادر عزیز! اگر آپ اپنے شہر اور اپنے دفتر میں ہوتے ہوئے، جہاں چند ملازم کام کرتے ہیں اور ہر شخص کا کام بھی متعین ہے، اپنی یہ ضرورت

سمجھتے ہیں کہ ایک ذمہ دار اور نگران ہو جو اس نظام کو صحیح چلا سکے، تو آپ خود سوچیں کہ جب ایک جماعت جو دس پندرہ انسانوں پر مشتمل ہو، دعوت کے لئے سفر پر نکلی ہو، کیا اس کو نظام کی ضرورت نہیں ہوگی؟ کہ ان میں ایک شخص ایسا ہو جو سب کی نگرانی کرے، ان میں نظم قائم کرے اور ان کے حالات پر نظر رکھے۔ جبکہ سفر میں اس کی ضرورت زیادہ ہے، کھانا پینا، نماز پڑھنا، سامان کی حفاظت اور دعوت کی ترتیب وغیرہ امور مستقل منتظم کے مقاضی ہیں۔ آپ اس نگرانی کا نام امیر رکھ دیں یا مردیر، نام سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔

اس نوجوان نے سر ہلاتے ہوئے کہا کہ: آپ نے صحیح کہا، مجھے مسئلہ سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے۔ پھر میں نے اس سے کہا کہ؛ امیر بنا نہ صرف جائز اور مباح ہے، بلکہ سنت اور آداب سفر میں سے ہے۔ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے کہ: جب ہم جماعت کی شکل میں سفر کریں تو اپنے لئے ایک امیر چن لیا کریں۔

بعض عوام اور غیر علماء سے دوران سفر ایک یا اعتراض بھی سننے میں آیا کہ: جماعت نے چہ بھر متعین کر کے باقی دین کے شعبوں کو چھوڑ دیا ہے، جب کہ دین زندگی کے سب شعبوں کو شامل ہے۔

یہ اعتراض بھی لا علمی پرمی ہے، بیٹھ دین زندگی کے تمام شعبوں کو شامل ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تقسیم کا رہی ایک فطری اور شرعی قاعدہ ہے، چنانچہ جس طرح کچھ لوگ پڑھنے پڑھانے، کچھ جہاد اور کچھ دیگر شعبوں میں کام کر رہے ہیں، ٹھیک اسی طرح تبلیغی جماعت کے بزرگوں نے اپنی فرست اور تحریب سے یہ چہ بھر متعین کئے کہ ان سے افادامت کی اصلاح اور ان کی زندگی میں انقلاب آئے گا، جب افادامت کی تربیت اور اصلاح ہوگی تو پھر وہ زندگی کے جس شعبے میں بھی جائیں گے، وہ دین کے احکام پر چلیں گے۔

میرے سامنے ایک واقعہ اس کی واضح مثال ہے وہ یہ کہ:

ایک بار حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید کے پاس ایک رکشہ والا آیا اور آپ سے رکشہ، ٹیکسی کے کرایہ کے بارے میں سوال کرنے لگا اور بعض ڈرائیور جو میٹر وغیرہ خراب رکھتے ہیں یا سواریوں کے ساتھ دھوکا بازی کرتے ہیں، ان کے بارے میں پوچھنے لگا، حضرت نے اس کے سوالات کے جواب دیئے اور فرمایا: بھائی! آپ اتنے عرصہ سے رکشہ چلا رہے ہیں اور اب آپ کو حلال و حرام کا کیسے خیال آیا؟ کہنے لگا: حضرت جی! مجھے اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور میں تبلیغی جماعت کے ساتھ جانے لگا تو مجھے حلال و حرام کی فکر ہوئی، کیونکہ اللہ کا حکم ہے، حلال کماو، حلال کھاؤ، حلال کھلاؤ اور حلال خرچ کرو، اس لئے میں نے یہ مسائل پوچھتے ہیں تاکہ حرام سے بچوں۔

اس کے علاوہ امیر جماعت حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ کے مفروظات اور خطابات میں جا بجا اس کا ذکر ہے کہ جو حضرات علم میں لگے ہوئے ہیں، وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، جو جہاد میں لگے ہوئے ہیں، وہ بھی دین کا کام کر رہے ہیں، میں آپ کو اس کام میں لگنے کا کہہ رہا ہوں۔

بہر حال یہ چند شبہات اور ان کے جوابات بطور نمونہ پیش کردیجئے ہیں، اگر کسی کو تفصیل معلوم کرنی ہو تو شیخ الحدیث حضرت مولانا محمد زکریا مہاجر مدینی رحمہ اللہ کی کتابیں: ۱: تبلیغی جماعت پر چند عمومی اعتراضات اور ان کے مفصل جوابات، ۲: الاعتدال، ۳: نصائل تبلیغ، دیکھ لی جائیں۔

حاصل یہ ہے کہ میں اس جماعت کو مختص سمجھتا ہوں، جس کا فائدہ حکومت اور عوام دونوں کو پہنچ رہا ہے۔ (ولا از کی علی اللہ احدا)

پھر یہ بات بھی یاد رکھنی چاہئے کہ تبلیغی جماعت ایک کھلی ہوئی کتاب ہے، جس میں کوئی چھپی ہوئی چیز نہیں، ہر شخص قریب سے اس کتاب کو پڑھ سکتا ہے، جس کو

جماعت کے بارے میں شک و شبہ ہو، اسے چاہئے کہ جماعت کے مرکز میں جائے، ان کے اجتماعات میں شامل ہو اور ان کے بیانات سنے کو وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ان کے ساتھ وقت لگائے اور دیکھئے کہ وہ کیا کرتے ہیں؟ اسی طرح جماعت کے بڑوں سے ملے اور اگر کوئی اشکال یا اعتراض ہو تو ان کے سامنے پیش کر کے تسلی بخش جواب حاصل کرے۔

یہاں میں مناسب سمجھتا ہوں کہ اس سلسلہ کی دو شہادتیں نقل کر دوں:

- ۱:- پہلی شہادت ایسے نوجوان کی ہے، جس نے جماعت کے ساتھ غیر اسلامی ملکوں میں وقت لگایا اور اس جماعت کے نیک آثار دیکھ کر اپنی رائے کا اظہار کیا۔
- ۲:- دوسرے ایک عالم فاضل کی ہے، جس نے اپنے دوستوں کے ساتھ رائے ٹوٹ کے سالانہ اجتماع میں شرکت کی، اور وہاں جو کچھ دیکھا، اس کی روپورٹ اپنے ملک کے بڑے عالم کو پیش کی۔

ایک عرب نوجوان کی شہادت کے سلسلہ میں عرض ہے کہ ۱۹۹۵ء میں امریکا کے ایک سفر کے دوران شکا گوکی ایک مسجد میں میری اس سے ملاقات ہوئی۔

ہوا یوں کہ میں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک مسجد میں عشاء کی نماز ادا کی، مسجد نمازوں سے کچھ کچھ ہمدری ہوئی تھی، یہ دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی، نماز کے بعد کسی نے بتایا کہ یہاں عربوں کی جماعت آئی ہوئی ہے، ہم ان سے ملنے کے لئے گئے، تعارف ہوا۔ جب امیر صاحب کو معلوم ہوا کہ ہمارا تعلق پاکستان سے ہے تو انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور الگ ایک جگہ بیٹھ گئے اور مجھ سے جماعت کے بارے میں سوالات کرنے لگے۔ میں نے اپنی معلومات کے مطابق اس کو جوابات دیئے، تو کہنے لگے: یا شیخ! میرے ملک میں بعض لوگ اس جماعت کے خلاف باتیں کرتے ہیں، لیکن حق یہ ہے کہ میں نے ان ملکوں میں اس جماعت کے جواضھے اثاثات دیکھے ہیں، وہ اس بات

کی کھلی اور روشن دلیل ہیں کہ یہ اہل حق کی جماعت ہے۔

اس عرب نوجوان کا: ”اچھے اثرات“ کہنے کا معنی یہ تھا کہ وہ اسلامی مظاہر، جو ان ملکوں میں پائے جاتے ہیں۔ یعنی باوجود وہ اس کے کہ مسلمان اقلیت میں ہیں، مگر ان کا دین کی طرف متوجہ ہونا، اپنے اور اپنی نسل کے ایمان و اسلام کی فکر کرنا، اس کے لئے جگہ جگہ مساجد تعمیر کرنا اور مساجد میں قرآن کریم کی تعلیم کے لئے مکاتب کا اجراء وغیرہ، یہ اسی کی برکت ہے کہ اب وہ مسلمان خود بھی مساجد میں باجماعت نماز ادا کرتے ہیں اور اپنے بچوں کو بھی ساتھ لے کر مکاتب میں قرآن کریم کی اور دین کے بنیادی مسائل کی تعلیم دلواتے ہیں، جب کہ اس سے پہلے وہ مغربی تہذیب اور وہاں کی مادی زندگی پر اس قدر فریقۃ ہو چکے تھے کہ انہیں دین و ایمان تک کا کچھ پتہ نہ تھا۔

اب جبکہ وہ جماعت کی محنت کی برکت سے دین کی طرف متوجہ ہوئے تو اپنی مساجد کے لئے اسلامی ملکوں سے علماء، ائمہ اور خطباء اور مکاتب کے لئے حفاظ اور قراء لائے، تاکہ وہ انہیں دین میں اسلام سکھائیں۔

ایک دوسری شہادت ایک بہت بڑے عالم دین کی ہے، جن کا تعلق ایک عرب برادر ملک سے ہے اور وہ ہیں: فضیلۃ الشیخ صالح بن علی الشوییمان حفظہ اللہ تعالیٰ جو خود بغض نشیں رائیوٹ کے سالانہ اجتماع میں شریک ہوئے اور پھر اس کی رپورٹ اپنے ملک کے مفتی اعظم کو پیش کی، چنانچہ وہ رپورٹ ملاحظہ ہو:

پاکستان کی تبلیغی جماعت کے بارے میں فضیلۃ الشیخ صالح بن علی الشویمان کی رپورٹ

جو انہوں نے ۱۴۰۷ھ میں پیش کی، یہ رپورٹ ایک کتاب ”جلاء الاذهان“
عما اشتبه فی جماعة التبلیغ لبعض اهل الایمان“ سے لی گئی ہے جو مختلف
خطوط کا مجموعہ ہے، جسے محترم مولانا غلام مصطفیٰ حسن صاحب نے جمع کیا ہے اور مکتبہ
محمدیہ ۸۶۔ وی: اکشمیر روڈ غلام محمد آباد، فیصل آباد نے چھاپا ہے:

”بسم الله الرحمن الرحيم“

سماحة الوالد الكريم الشیخ عبد العزیز بن عبدالله بن باز الرئيس
العام لادارة البحوث العلمیہ والأفتاء والدعوة والارشاد حفظه الله من
کل سوء ووفقه وسد مطهه آمين۔

السلام عليکم ورحمة الله وبرکاتہ۔ امام بعد!

میری رخصت ۳/۳/۱۴۰۷ھ کو شروع ہوئی اور میں ۳/۳/۱۴۰۷ھ کو علماء اور
طلبہ کی ایک جماعت کے ساتھ پاکستان کے سفر پر روانہ ہوا، ان علماء اور طلبہ کا تعلق
ملکت کی مختلف جامعات سے تھا، یعنی الجامعہ الاسلامیہ، جامعہ الامام محمد بن سعود
الاسلامیہ اور جامعۃ الملک سعود وغیرہ۔

اس سفر میں ہم نے عجائبات کا مشاہدہ کیا، جب ہم لاہور کے ہوائی اڈے پر
پہنچ تو ہمارا استقبال ایک ایسی صالح نوجوانوں کی جماعت نے کیا، جن کے چہروں اور
داڑھیوں سے علم اور ایمان کا نور چمک رہا تھا۔

ہم ہوائی اڈے کی مسجد میں پہنچے، تحریۃ المسجد ادا کرنے کے بعد ہم سب مل جل کر
بیٹھ گئے، ہمارا تعلق مختلف ممالک سے تھا، اب ان میں سے ایک نوجوان انھا اور اس

نے ایسا بیان شروع کیا جو دلوں کو ہتھیخ رہا تھا، پھر گاڑیاں آگئیں اور ہمیں رائیونڈ لے گئیں، جہاں سالانہ اجتماع منعقد ہوتا ہے، وہ خوبصورت اجتماع جسے دیکھ کر دل میں خشوع پیدا ہوتا ہے اور آنکھیں ڈر، خوشی اور اللہ کے خوف سے بارش کی طرح آنسو بہاتی ہیں، یہ اجتماع اہل جنت کے اجتماع سے مشابہ ہے، جہاں نہ کوئی شور و غل تھا اور نہ کوئی تکلیف، نہ کوئی فضول بات، نہ لاقانونیت اور نہ جھوٹ - صاف سترہ اماحول، نہ کوئی بدبو اور نہ کوئی گندگی - ہر چیز ذہانت و سلیقہ سے ترتیب دی ہوئی تھی - نہ ٹریفک پولیس، نہ عام پولیس اور نہ کوئی چوکیدار۔ جب کہ اجتماع میں آنے والوں کی تعداد دس لاکھ سے زیادہ ہے۔

ایک فطری اور پاکیزہ زندگی ہے، جہاں ذکر اللہ کی فضا پھیلی ہوئی ہے، دن رات ہر طرف علمی، محاضرات، دروس اور ذکر اللہ کے حلقات لگے ہوئے ہیں، جس میں دعوت، تعلیم، ذکر و عبادت کے سب پہلو تھے، بخدا! یہ ایسا اجتماع ہے جس سے دل زندہ اور ایمان چمکتا ہے اور اس میں اضافہ ہوتا ہے۔

کتنا بارعب اور کتنا خوبصورت اجتماع ہے جو آپ کے سامنے صحابہ کرامؓ، تابعینؓ اور تابعینؓ کی بولتی ہوئی تصویر پیش کرتا ہے۔ ہر طرف محنت، علم، ذکر، میٹھی گفتگو، خوبصورت اعمال، عمدہ اسلامی حرکات اور ایمان اور علم سے چکتے ہوئے چہرے آپ کو ملیں گے۔ آپ اس اجتماع میں صرف توحید، ذکر، تسبیح و تمجید، تحلیل و تکبیر، قرآن کریم کی تلاوت، السلام عليکم، وعليکم السلام و رحمة الله اور جزاکم الله خيراً جیسی باتیں سئیں گے۔

آپ کی نگاہ ایسی چیزوں پر پڑے گی جن سے آپ کو خوشی ہوگی اور آپ کا دل باغ باغ ہو جائے گا اور وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو تروتازہ وزندہ کرنا ہے، جنہیں آپ ہر آن اور ہر وقت دیکھ کر لطف اندوز ہوں گے، یہ کتنا خوبصورت اور کتنا

ہی عمدہ عظیم الشان اجتماع ہے۔

حاصل کلام یہ ہے کہ یہاں آپ کو واضح طور پر قرآن کریم اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا عملی نمونہ نظر آئے گا، کیا ہی خوب پا کیزہ اور سعادت مند زندگی ہے۔ میرے دل میں بار بار یہ آرزو پیدا ہوئی کہ کاش! اس قسم کی دعوت کا اجتماع مملکت سعودی عرب میں بھی منعقد ہو، اس لئے کہ ہر اچھے کام اسی مملکت کے ساتھ زیب دیتے ہیں اور اس لئے بھی کہ مرحوم ملک عبدالعزیزؑ کے ابتدائی تابندہ دور سے لے کر مملکت ہمیشہ ہر عمل خیر میں آگے آگے رہی ہے۔

اس عظیم اجتماع میں اکٹھے ہونے والے افراد جن کا تعلق دنیا کے مختلف ملکوں سے تھا، سب کی ایک شکل، ایک طبیعت، ایک بات اور ایک ہدف ہے، گویا وہ سب ایک باپ کی اولاد ہیں یا یہ سمجھیں کہ گویا اللہ تعالیٰ نے ایک دل پیدا فرمایا اور ان سب میں تقسیم کر دیا ہے۔

ان سب کا مقصد اور غرض اس کے سوا کچھ نہیں کہ دین کو مضبوطی سے کپڑا جائے اور مسلمانوں کی اصلاح کی جائے اور غیر مسلموں کو اللہ تعالیٰ کے راستہ کی طرف را ہنمائی کی جائے۔ تجھب ہے کہ ایسے صالحین کے خلاف جھوٹی خبریں پھیلانے والے کیوں غلط بیانی سے کام لیتے ہیں؟؟؟

ان حضرات کے پارے میں شیخ عبدالجید زمانی نے کیا خوب فرمایا ہے: ”یہ تو آسمان کی مخلوق ہے جوز میں پر چل پھر رہی ہے۔“

اس کے بعد کون ایسا دل ہو گا جو ان کو مُرا بھلا کئے اور ایسی باتوں کی تہمت لگانے کی جرأت کرے گا جو ان میں نہیں ہیں!

میرا خیال یہ ہے کہ اس جماعت کا ہدف اور مقصد بھی وہی ہے جو ہماری مملکت کا ہے اور وہ ہے: دنیا کے انسانوں کی اصلاح اور زمین کے چپے چپے پر امن و امان کی

ترویج، اب آپ ہی بتائیں! کہ کون سی بات ان کی قابل گرفت ہے؟؟
 اب دوبارہ اجتماع کی طرف آئیے! عشاء کے بعد جب بیان ختم ہوتا ہے تو
 داکیں، باکیں نگاہ دوڑا کیں تو آپ کو مختلف علمی حلقة نظر آئیں گے، ان میں جس حلقة
 میں بھی آپ پیشیں گے، لطف انداز ہوں گے اور وہاں سے کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھا کر ہی
 اٹھیں گے، پھر جب سونے کا وقت ہو جاتا ہے اور چاروں طرف خاموشی اور سکون
 طاری ہو جاتا ہے تو آپ ان کو دیکھیں گے گویا جگہ جگہ ستون کھڑے ہیں اور نماز میں
 مشغول ہیں اور جب رات کا آخری وقت ہوتا ہے تو ان کو دیکھیں گے گویا شہد کی مکھیاں
 ہیں جو بھینسنا رہی ہیں، ہر طرف آہ و بکا اور رورو کے ہاتھ اٹھائے دعا کر رہے ہیں کہ:
 اللہ تعالیٰ ان کے اور تمام مسلمانوں کے گناہ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو اور ان کے
 تمام مسلمان بھائیوں کو جہنم کی آگ سے بچائے اور سب لوگوں کو ہدایت بخشنے کہ محمد
 مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کریں۔

مختصر یہ کہ یہ ایک ایسا اجتماع ہے، جس میں ہر عالم اور ہر طالب علم کو آنا چاہئے
 ، بلکہ ہر اس مسلمان کو آنا چاہئے جو دل میں اللہ کا خوف اور آخرت میں جنت کی امید رکھتا
 ہے، اللہ تعالیٰ اس اجتماع کے ذمہ دار حضرات کو جزاۓ خیر دے، ان کو ثابت قدم رکھے،
 ان کی مد فرمائے اور ان کے ذریعہ مسلمانوں کو فائدہ پہنچائے۔ انه سميع معجيب۔
 اب ان کے بارے میں سنیں جو اس اجتماع میں آنے والوں کی خدمت پر مقرر
 ہیں، وہ سب کے سب دین سے سرشار ہیں، آنے پہنچنے والے کی زبان پر اللہ کا نام اور تربیع
 و تکبیر جاری ہے، آنے گوندھنے والے کی زبان پر اللہ کا نام، اللہ اکبر، سبحان ا
 اللہ، والحمد لله جاری ہے، اور روٹی پکانے والے کی زبان پر بھی اللہ کا نام، اللہ کا
 ذکر، تسبیح، تحمید اور تکبیر جاری ہے اور یہ ہم نے اس وقت اپنی آنکھوں سے دیکھا اور
 کانوں سے سنا، جب کہ ان کو ہمارے آنے کی پیشگوئی کوئی اطلاع نہیں تھی اور نہ ہی ان کو

پتہ چلا کہ ہم دیکھ اور سن رہے ہیں۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ان پر بصیرت کے دروازے کھول دیئے ہیں اور اپنے ذکر کی توفیق دی ہے، اور ان کو وہ سیدھا راستہ دکھایا ہے جس کی ہر مسلمان تمنا کرتا ہے۔

سماحة الشیخ! حقیقت یہ ہے کہ جو شخص بھی اس جماعت میں شامل ہو گا اور ان کی صحبت میں شامل ہو گا اور ان کی صحبت میں رہے گا وہ ضرور عملی طور پر داعی الی اللہ بن کر رہے گا۔ کاش! میں جب جامعہ میں طالب علم تھا، اس وقت سے اس جماعت سے متعارف ہوتا تو آج میں دعوت اور تمام علوم میں علامہ ہوتا۔

بخدا! میرا ان کے بارے میں یہ اعتقاد ہے اور قیامت کے روز کہ: ”جس دن مال، اولاً داور کوئی چیز کسی کے کام نہ آئے گی، اگر جبار مجھ سے پوچھیں گے تو میں یہی جواب دوں گا۔ فضیلۃ الشیخ! کاش! وہ تمام دعاۃ حضرات جو آپ کے مبارک شعبہ کے ماتحت کام کرتے ہیں، وہ اس اجتماع میں شریک ہوں، اور جماعت کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلیں اور اخلاص اور دعوت کا انداز یکھیں اور صحابہ کرامؓ، تابعینؓ اور تبع تابعینؓ کے اخلاق یکھیں! اور آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حق کو حق دکھائے اور اس کی اتباع کی توفیق دے اور رُشد و ہدایت کی رہنمائی فرمائے اور اخلاص اور صحیح اعمال کی توفیق دے اور ہمیں ہمارے نفس، خواہشات اور شیطان کے شر سے بچائے اور اپنے دین کی نصرت فرمائے اور کلمہ حق کو بلند کرے اور ہماری حکومت کو اسلام سے عزت دے اور اسلام کو اس کے ذریعہ عزت دے اور وہی ہی اس کے ولی اور اس پر قادر ہیں۔

وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحابہ
صالح بن علی الشویمان

عنیزہ کے علاقہ میں
دعوت و ارشاد کا نمائندہ“

اس روپورٹ کے جواب میں سماحتہ اشیخ عبدالعزیز بن عبد اللہ بن بازنے ان کو جو خط لکھا ہے اور جس کا نمبر ہے: ۷-۸-۷۱۰۰-۱۷-۱۷۱۳۰۰ ہ درج ذیل ہے:

”بسم الله الرحمن الرحيم“

عبدالعزیز بن باز کی طرف سے (روحانی بیٹھ) مکرم و محترم فضیلۃ الشیخ صالح بن علی الشویمان کی جانب! آپ جہاں بھی ہوں اللہ تعالیٰ آپ کو مبارک بنائے، آمین۔
السلام عليکم ورحمة الله وبركاته، اما بعد!

میں نے آپ کی روپورٹ جو آپ نے پیش کی ہے پڑھی ہے، جس میں آپ نے اپنے اور اپنے ساتھ جانے والے علماء اور طلباء، جن کا تعلق الجامعۃ الاسلامیۃ مدینۃ منورہ، جامعہ الامام محمد بن سعود اور جامعہ ملک سعود وغیرہ سے ہے، اس اجتماع میں شریک ہونے کی تفصیلات لکھی ہیں..... جسے تبلیغی جماعت نے رائیوں میں ریج الاول ۷-۱۳۰۰ھ میں منعقد کیا ہے... اس روپورٹ کو میں نے پڑھا ہے اور اسے کافی و شافی پایا ہے، اس روپورٹ میں اس اجتماع کی ایسی باریک تصویر پیش کی گئی ہے، جسے پڑھنے والے کو ایک شوق پیدا ہوتا ہے اور روپورٹ پڑھنے والا ایسا محسوس کرتا ہے کہ جیسے وہ خود اس کا مشاہدہ کر رہا ہے۔

مجھے اس سے بھی بہت خوشی ہوئی کہ آپ سب حضرات نے اس اجتماع سے بہت سے فوائد حاصل کئے اور ذمہ دار حضرات سے تبادلہ خیالات کیا، اللہ تعالیٰ ان کو جزئے خیر دے، اور اس قسم کے اجتماعات زیادہ سے زیادہ ہوں اور ان سے مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نفع دے۔

بیشک اس وقت مسلمانوں کو اس بات کی سخت ضرورت ہے کہ اس قسم کی پاکیزہ ملاقاتیں ہوں، جن میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا تذکرہ ہو اور جن میں اسلام کو مضبوط کپڑنے، اس کی تعلیمات پر عمل کرنے اور توحید کو بدعاں اور خرافات سے پاک رکھنے

کی دعوت ہو۔

اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو، چاہے حاکم ہوں یا رعیت، اس فرض کی کامل ادائیگی کی توفیق دے۔

انہ جواد کریم والسلام عليکم ورحمة الله وبرکاته،

الرئيس العام :

لادارة البحث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد“

مکتب گرامی

حضرت مولانا محمد یوسف کاندھلویؒ

اب حضرت جی حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کاندھلوی رحمہ اللہ، سابق امیر تبلیغی جماعت، کا وہ تفصیلی خط پیش کیا جاتا ہے جو انہوں نے اس جماعت کے نام تحریر فرمایا تھا، جو حریم شریفین عمرہ اور زیارت کے لئے گئی تھی۔ اس خط میں حضرت جیؒ نے دعوت کے مقاصد، اصول، لائجِ عمل اور خروج فی سبیل اللہ کے عام آداب بیان فرمائے ہیں۔

آپؒ کا یہ مکتب ہر اس جماعت کے لئے مفید اور راہنمائی کا کام دیتا ہے، جو اللہ کی راہ میں دعوت و تبلیغ کے لئے نکلتی ہے، اور ہر اس شخص کی راہنمائی کرتا ہے، جو اس جماعت کے لائجِ عمل، مقاصد اور آداب پر مطلع ہونا چاہتا ہے۔

یہ مکتب حضرت مولانا محمد یوسف صاحب کاندھلویؒ کی سوانح حیات
مؤلف: مولانا محمد ثانی حسنی، مطبوعہ مکتبہ اسلامیہ کراچی، ۱۹۷۸ء، ۱۳۸۹ھ
کے ص: ۶۷ سے شروع ہو کر ص: ۹۱ تک ختم ہوتا ہے۔ ملاحظہ ہو:

بسم الله الرحمن الرحيم

محترمین و مکرمن بنده زادنا اللہ و ایا کم جهداً و سعیاً فی سبیله
والهمنا و ایا کم مرشد امورنا السلام علیکم و رحمة الله و برکاته۔
خداوند کریم سے امید ہے کہ آپ حضرات بعافیت ہوں گے، آپ حضرات
کی دینی مسائل کی اطلاعات باعثِ مسرت اور باعثِ تقویت ہوتی ہیں، اللہ جل شانہ

قبول فرمادیں، بار آور فرمادیں، ترقیات عطا فرمادیں، صحیح نجح پر آپ حضرات کی حفاظت فرمادیں اور پوری ترکیب و ترتیب کی سمجھ عطا فرمادیں۔ آمین۔

کامیابی اور ناکامی کا انحصار

اللہ رب العزت جل جلالہ و عُمّ نوالہ نے انسانوں کی تمام کامیابیوں کا دار و مدار انسان کے اندر ورنی سرمایہ پر رکھا ہے، کامیابی اور ناکامی انسان کے اندر کے حال کا نام ہے، باہر کی چیزوں کے نقشے کا نام کامیابی و ناکامی نہیں، عزت و ذلت، آرام و تکلیف، سکون و پریشانی، صحت و بیماری، انسان کے اندر کے حالات کا نام ہے، ان حالات کے بنے یا بگڑنے کا باہر کے نقشوں سے تعلق بھی نہیں، اللہ جل شانہ ملک و مال کے ساتھ انسان کو ذلیل کر کے دکھادیں اور فقر کے نقشے میں عزت دے کر دکھادیں۔ انسان کے اندر کا سرمایہ اس کا یقین اور اس کے اعمال ہیں۔ انسان کے اندر کا یقین اور اندر سے نکلنے والے عمل اگر ٹھیک ہوں گے تو اللہ جل شانہ اندر کامیابی کی حالت پیدا فرمادیں گے، خواہ چیزوں کا نقشہ کتنا ہی پست ہو۔

ایمان باللہ

اللہ جل شانہ تمام کائنات کے ہر ذرے کے اور ہر فرد کے خلق، مالک ہیں، ہر چیز کو اپنی قدرت سے بنایا ہے، سب کچھ ان کے بنانے سے بنائے ہے۔ وہ بنانے والے ہیں خود بنے نہیں اور جو خود بننا ہوا ہے اس سے کچھ بنتا نہیں۔ جو کچھ قدرت سے بنائے ہے وہ قدرت کے ماتحت ہے، ہر چیز پر ان کا قبضہ ہے۔ وہ ہی ہر چیز کو استعمال فرماتے ہیں، وہ اپنی قدرت سے ان چیزوں کی شکلوں کو بھی بدلتے ہیں اور شکلوں کو قائم رکھ کر صفات کو بدلتے ہیں، لکڑی کو اڑدھا بنا سکتے ہیں اور اڑدھے کو لکڑی بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح ہر شکل پر خواہ ملک ہو یا مال کی برق کی ہو یا بھاپ کی، ان کا ہی قبضہ ہے اور وہ ہی

تصرف فرماتے ہیں۔ جہاں سے انسان کو تغیر نظر آتی ہے وہاں سے تخریب لا کر دکھادیں اور جہاں سے تخریب نظر آتی ہے وہاں سے تغیر لا کر دکھادیں اور سارے ساز و سامان میں پروش بگاڑ دیں۔

ایمان بالرسالت

اللہ جل شانہ کی ذات عالیٰ سے تعلق پیدا ہو جائے اور ان کی قدرت سے برآ راست استفادہ ہو، اس کے لئے حضرت محمد ﷺ کی طرف سے طریقے لے کر آئے ہیں، جب ان کے طریقے زندگیوں میں آئیں گے تو اللہ جل شانہ ہر نقشے میں کامیابی دے کر دکھائیں گے۔

ایمان و یقین کا نتیجہ اور اس کی دعوت

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَسُولُ اللَّهِ“ میں اپنے یقین اور اپنے جذبے اور اپنے طریقے کو بدلتے کا مطالبہ ہے، صرف یقین کی تبدیلی پر ہی اللہ پاک اس زمین و آسمان سے کئی گناہ زیادہ بڑی جنت عطا فرمائیں گے، جن چیزوں میں سے یقین نکل کر اللہ کی ذات میں آئے گا، ان ساری چیزوں کو اللہ پاک مختصر فرمادیں گے۔ اس یقین کو اپنے اندر پیدا کرنے کے لئے ایک تو اس یقین کی دعوت دینی ہے، اللہ کی بڑائی سمجھانی ہے، ان کی ربو بیت سمجھانی ہے، ان کی قدرت سمجھانی ہے، انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کرامؐ کے واقعات سنانے ہیں، خود تہائیوں میں بیٹھ کر سوچنا ہے، دل میں اسی یقین کو اتا رنا ہے، جس کی مجمع میں دعوت دی ہے، یہی حق ہے اور پھر رورکر دعا مانگی ہے کہ: اے اللہ! اس یقین کی حقیقت سے نواز دے۔

نماز کا اہتمام اور اس کی دعوت

اللہ جل شانہ کی قدرت سے برآ راست فائدے حاصل کرنے کے لئے نماز

کا عمل دیا گیا ہے۔ سر سے لے کر پیر تک اللہ کی رضاوائے مخصوص طریقے پر پابند یوں کے ساتھ اپنے کو استعمال کرو، آنکھوں کا، کانوں کا، ہاتھوں کا، زبان کا اور پیروں کا استعمال ٹھیک ہو۔ دل میں اللہ کا دھیان ہو، اللہ کا خوف ہو، یقین ہو کہ نماز میں اللہ کے حکم کے مطابق میرا ہر استعمال بکیر و تسبیح، رکوع و وجہہ، ساری کائنات سے زیادہ انعامات دلانے والا ہے۔ اسی یقین کے ساتھ نماز پڑھ کر ہاتھ پھیلا کر ماٹگا جائے تو اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے ہر ضرورت کو پورا کریں گے۔ ایسی نماز پر اللہ پاک گناہوں کو معاف بھی فرمادیں گے۔ رزق میں برکت بھی دیں گے، طاعت کی توفیق بھی ملے گی، ایسی نماز سیکھنے کے لئے دوسروں کو خشوع و خضوع والی نماز کی ترغیب و دعوت دی جائے، اس پر آخرت اور دنیا کے لفغے سمجھائے جائیں۔ حضور ﷺ اور حضرات صحابہؓ کی نمازوں سنانا، خود اپنی نماز کو اچھا کرنے کی مشق کرنا۔ اہتمام سے وضو کرنا، دھیان جانا، قیام میں قعدہ میں رکوع میں، سجدے میں بھی دھیان کم از کم تین مرتبہ جمایا جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، نماز کے بعد سوچا جائے کہ اللہ کی شان کے مطابق نماز نہ ہوئی۔ اس پر رونا اور کہنا کہ: اے اللہ! ہماری نماز میں حقیقت پیدا فرما۔

علم اور ذکر

علم سے مراد یہ ہے کہ ہم میں تحقیق کا جذبہ پیدا ہو جائے۔ میرے اللہ مجھ سے اس حال میں کیا چاہتے ہیں اور پھر اللہ کے دھیان کے ساتھ اپنے آپ کو اس عمل میں لگا دینا، یہ ذکر ہے۔ جو آدمی دین سیکھنے کے لئے سفر کرتا ہے، اس کا یہ سفر عبادت میں لکھا جاتا ہے۔ اس مقصد کے لئے چلنے والوں کے پیروں کے نیچے ستر ہزار فرشتے اپنے پر بچاتے ہیں، زمین و آسمان کی ساری مخلوق ان کے لئے دعاۓ مغفرت کرتی ہے شیطان پر ایک عالم، ہزار عابدوں سے زیادہ بھاری ہے۔ دوسروں میں علم کا شوق پیدا کرنے کی کوشش کی جائے، فضائل سنائے جائیں، خود تعلیم کے حلقوں میں بیٹھا جائے،

علماء کی خدمت میں حاضری دی جائے، اس کو بھی عبادت یقین کیا جائے اور رورو کرمانگا جائے کہ اللہ جل شانہ علم کی حقیقت عطا فرمادیں۔ ہعمل میں اللہ جل شانہ کا دھیان پیدا کرنے کے لئے اللہ کا ذکر ہے، جو آدمی اللہ جل شانہ کو یاد کرتا ہے، اللہ جل شانہ اس کو یاد فرماتے ہیں۔ جب تک آدمی کے ہونٹ اللہ کے ذکر میں ملتے رہتے ہیں، اللہ جل شانہ اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اللہ پاک اپنی محبت و معرفت عطا فرماتے ہیں، اللہ کا ذکر، شیطان سے حفاظت کا قلعہ ہے۔ خود اللہ جل شانہ کا دھیان پیدا کرنے کے لئے دوسروں کو اللہ کے ذکر پر آمادہ کرنا، ترغیب دینا، خود دھیان جما کر کہ میرے اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں ذکر کرنا اور رورو کر دعا مانگنا کہ: اے اللہ! مجھے ذکر کی حقیقت عطا فرم۔

اکرام مسلم

ہر مسلمان کا بحیثیت رسول اللہ ﷺ کا امتی ہونے کے اکرام بھی کرنا ہے، ہر امتی کے آگے بچھ جانا، ہر شخص کے آگے بچھ جانا۔ ہر شخص کے حقوق کو ادا کرنا اور اپنے حقوق کا مطالبہ نہ کرنا۔ جو آدمی مسلمان کی پرده پوشی کرے گا، اللہ جل شانہ اس کے کام میں لگر رہتے ہیں، جو اپنے حق کو معاف کر دے گا، اللہ جل شانہ اس کو رفت و بلندی عطا فرمائیں گے، اس کے لئے دوسروں میں ترغیب کے ذریعہ اکرام مسلم کا شوق پیدا کرنا ہے، مسلمان کی قیمت بتانی ہے، حضور اکرم ﷺ اور صحابہ کرامؓ کے اخلاق، ہمدردی اور ایثار کے واقعات سنانے ہیں، خود اس کی مشق کرنی ہے اور رورو کر اللہ جل شانہ سے حضور ﷺ کے اخلاق کی توفیق مانگنی ہے۔

حسن نیت

ہعمل میں اللہ جل شانہ کی رضا کا جذبہ ہو، کسی عمل سے دنیا کی طلب یا اپنی حیثیت بتانا مقصود نہ ہو، اللہ کی رضا کے جذبے سے تھوڑا سا عمل بھی بہت انعامات دلوائے

گا اور اس کے بغیر بہت بڑے عمل بھی گرفت کا سبب بنیں گے، اپنی نیت کو درست کرنے کے لئے دوسروں میں دعوت کے ذریعے تصحیح نیت کا فکر و شوق پیدا کیا جائے۔ اپنے آپ پر عمل سے پہلے اور ہر عمل کے دوران، نیت کو درست کرنے کی مشق کی جائے۔ میں اللہ کو راضی کرنے کے لئے یہ عمل کرہا ہوں اور عمل کی تکمیل پر اپنی نیت کو ناقص قرار دے کر توبہ واستغفار کیا جائے اور رورو کر اللہ جل شانہ سے اخلاص مانگا جائے۔

اللہ کے راستے کی محنت اور دعا

آج امت میں کسی حد تک انفرادی اعمال کا رواج ہے، گوان کی حقیقت نکلی ہوئی ہے۔ حضور اقدس ﷺ کی ختم نبوت کے طفیل پوری امت کو دعوت والی محنت ملی تھی، اس کے بندوں کا تعلق اللہ جل شانہ سے قائم ہو جائے، اس کے لئے انبیاء علیہم السلام والے طرز پر اپنی جان و مال کو جھوک دینا اور جن میں محنت کر رہے ہیں ان سے کسی چیز کا طالب نہ بننا، اس کے لئے بھرت بھی کرنا اور نصرت بھی کرنا۔ جوز میں والوں پر رحم کرتا ہے آسمان والا اس پر رحم کرتا ہے، جو دوسروں کا تعلق اللہ جل شانہ سے جوڑنے کے لئے ایمان و عمل صالح کی محنت کریں گے اللہ جل شانہ ان کو سب سے پہلے ایمان و عمل صالح کی حقیقوں سے نواز کر اپنا تعلق عطا فرمائیں گے۔ اس راستے میں ایک صحیح یا ایک شام کا نکنا پوری دنیا اور جو کچھ اس میں ہے (باعتبار مال کے بھی اور باعتبار چیزوں کے بھی) اس سب سے بہتر ہے۔ اس میں ہر مال کے خرچ اور اللہ کا ہر ذکر و تسبیح اور ہر نماز کا ثواب سات لاکھ گنا ہو جاتا ہے۔ اس راستے میں محنت کرنے والوں کی دعائیں بنی اسرائیل کے انبیاء علیہم السلام کی دعاؤں کی طرح قبول ہوتی ہیں، یعنی جس طرح ان کی دعاؤں پر اللہ جل شانہ نے ظواہر کے خلاف اپنی قدرت کو استعمال فرمایا کر ان کو کامیاب فرمایا اور باطل خاکوں کو توڑ دیا۔ اسی طرح اس محنت کے کرنے والوں کی

دعاؤں پر اللہ جل شانہ نواہر کے خلاف اپنی قدرت کے مظاہرے فرمائیں گے اور اگر عالمی بنیاد پر محنت کی گئی تو تمام اہل عالم کے قلوب میں ان کی محنت کے اثر سے تبدیلیاں لائیں گے۔ دین کے دوسرے اعمال کی طرح ہمیں یہ محنت بھی کرنی نہیں آتی، دوسروں کو اس محنت کے لئے آمادہ کرنا ہے، اس کی اہمیت اور قیمت بتانی ہے۔ انبیاء علیہم السلام اور صحابہ کرام کے واقعات سنانے ہیں، خود اپنے آپ کو قربانی کی شکلوں اور بھرت و نصرت والے اعمال میں لگانا ہے۔ صحابہ کرام ہر حال میں اللہ کی راہ میں نکلے ہیں، نکاح کے وقت اور رخصتی کے وقت گھر میں ولادت کے موقع پر اور وفات کے موقع پر، سردی میں، گرمی میں، بھوک میں، فاقہ میں، صحت میں، بیماری میں، ضعف میں، جوانی اور بڑھاپے میں بھی نکلے ہیں اور رورو کر اللہ جل شانہ سے مانگتا ہے کہ ہمیں اس عالی محنت کے لئے قبول فرمائے۔

مسجدوں میں کرنے کے کام

ان چیزوں سے مناسبت پیدا کرنے کے لئے ہر شخص سے خواہ کسی شعبے سے متعلق ہو چار ماہ کا مطالبہ کیا جاتا ہے۔ اپنے مشاغل ساز و سامان اور گھر بارے نکل کر ان چیزوں کی دعوت دیتے ہوئے اور خود مشق کرتے ہوئے ملک بہ ملک، اقیم بہ اقیم، قوم بہ قوم، قریب بہ قریب پھریں گے، حضور اقدس ﷺ نے ہر امتی کو مسجد والا بنا یا تھا، مسجد کے کچھ مخصوص اعمال دیئے تھے، ان اعمال سے مسلمانوں کا زندگی میں امتیاز تھا، مسجد میں اللہ کی بڑائی کی، ایمان کی اور آخرت کی باتیں ہوتی تھیں، اعمال سے زندگی بننے کی باتیں ہوتی تھیں، عملوں کے ٹھیک کرنے کے لئے تعلیمیں ہوتی تھیں۔ ایمان و عمل صالح کی دعوت کے لئے ملکوں اور علاقوں میں جانے کی تشکیلیں بھی مسجد سے ہی ہوتی تھیں۔ اللہ کے ذکر کی مجلسیں مسجدوں میں ہوتی تھیں۔ یہاں تعاون، ایثار اور ہمدردیوں کے اعمال ہوتے تھے۔ ہر شخص، حاکم، حکوم، مالدار، غریب، تاجر، زارع، مزدور مسجد میں آ کر زندگی سیکھتا تھا

اور باہر جا کر اپنے اپنے شعبے میں مسجد والے تاؤڑ سے چلتا تھا۔ آج ہم دھوکے میں پڑ گئے کہ ہمارے پیسے سے مسجد چلتی ہے، مسجد میں اعمال سے خالی ہو گئیں اور چیزوں سے بھر گئیں۔ حضور ﷺ نے مسجد کو بازار والوں کے تالع نہیں کیا۔ حضور ﷺ کی مسجد میں نہ بجلی تھی نہ پانی تھا، نہ غسل خانے تھے، خرچ کی کوئی شکل نہ تھی، مسجد میں آ کر داعی بنتا تھا، معلم اور معلم بنتا تھا، ذا کر بنتا تھا، نمازی بنتا تھا، مطعی بنتا تھا، متقی زاہد بنتا تھا، خلیق بنتا تھا، باہر جا کر رٹھیک زندگی گزارتا تھا مسجد بازار والوں کو چلاتی تھی، ان چار ماہ میں ہر جگہ جا کر مسجدوں میں ہرامتی کولانے کی مشق کریں، مسجد والے اعمال کو سیکھتے ہوئے دوسروں کو یہ محنت سیکھنے کے لئے تین چلوں کے واسطے آ مادہ کریں۔

مقامی گشت و اجتماع

واپس اپنے مقام پر آ کر اپنی بستی کی مسجد میں ان اعمال کو زندہ کرنا ہے، ہفتہ میں دو مرتبہ گشت کے ذریعہ بستی والوں کو جمع کر کے انہی چیزوں کی طرف متوجہ کرنا اور مشق کے لئے فی گھر ایک نفر تین چلوں کے لئے باہر لکھنا ہے۔ ایک گشت اپنی مسجد کے ماحول میں اور دوسرا گشت دوسری مسجد کے ماحول میں کریں۔ ہر مسجد میں مقامی جماعت بھی بنائیں۔ ہر مسجد کے احباب روزانہ فضائل کی تعلیم کریں۔

ہر مہینہ کی سہ روزہ جماعت

اپنے شہر یا بستی کے قریب دیہات میں کام کی فضابنے، اس کے لئے ہر مسجد سے تین یوم کے لئے جماعتیں پانچ کوں کے علاقے میں جائیں، ہر دوست مہینے میں تین یوم پابندی سے لگائے۔ ”الحسنة عشر امثالها“ کے مصدق تین دن پر حکماً تین دن کا ثواب ملے گا، پورے سال ہر مہینے تین دن لگائے تو سارا سال اللہ کی راہ میں شمار ہو گا۔ اندر و ان ملک کے تقاضے پورے ہوتے رہیں اور اپنی مشق قائم رہے اور جاری رہے۔

چلہ اور تین چلے لگانا اور ان کی دعوت دینا

ہر سال اہتمام سے چلہ لگایا جائے، عمر میں کم از کم تین چلے سال میں چلہ مہینے میں تین یومن، ہفتہ میں دو گشت، روزانہ تعلیم، تسبیحات، تلاوت یہ کم سے کم نصاب ہے کہ ہماری زندگی دین والی بنتی رہے۔ اگر ہم یوں چاہیں کہ ہم سب بین اجتماعی طور پر پوری انسانیت کی زندگی کے صحیح رخ پر آنے اور باطل کے ٹوٹنے کا، تو اس کے لئے اس نصاب سے بھی آگے بڑھنا ہوگا، ہمارے وقت اور ہماری آمدی کا نصف اللہ کی راہ میں لگے اور نصف کار و بار اور گھر کے مسائل میں یا کم از کم یہ کہ ایک تھائی وقت و آمدی اللہ کی راہ میں اور دو تھائی اپنے مشاغل میں۔ یعنی ہر سال چار ماہ کی ترتیب بٹھائی جائے۔ آپ حضرات عمر میں کم از کم تین چلوں کی دعوت خوب جم کر دیں، اس میں بالکل نہ گھبرائیں، اس کے بغیر زندگیوں کے رخ نہ بد لیں گے۔ جن احباب نے خود ابھی تین چلے نہ دیئے ہوں وہ بھی اس نیت سے خوب جم کر دعوت دیں کہ اللہ جل شانہ اس کے لئے ہمیں قبول فرمائے۔

گشت اور اس کی اہمیت

گشت کا عمل اس کام میں ریڑھ کی ہڈی کی سی اہمیت رکھتا ہے، اگر یہ عمل صحیح ہوگا تو قبول ہوگا۔ دعوت قبول ہوگی، دعا قبول ہوگی، ہدایت آئے گی اور گشت قبول نہ ہوا تو دعوت قبول نہ ہوگی، دعوت قبول نہ ہوئی، دعا قبول نہ ہوگی، دعا قبول نہ ہوئی، ہدایت نہیں آئے گی۔

گشت کا موضوع اور دعوت

گشت کا موضوع یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے ہماری دنیا اور آخرت کے مسائل کا حل حضرت محمد ﷺ کے طریقے پر زندگی گزارنے میں رکھا ہے۔ ان کے طریقے

ہماری زندگیوں میں آ جائیں۔ اس کے لئے محنت کی ضرورت ہے۔ اس محنت پرستی والوں کو آمادہ کرنے کے لئے گشت کے لئے مسجد میں جمع کرنا ہے۔ نماز کے بعد اعلان کر کے لوگوں کو روکا جائے۔ اعلان پستی کا کوئی با اثر آدمی یا امام صاحب کریں تو زیادہ مناسب ہو گا۔ وہ ہم کو کہیں تو ہمارے ساتھی کر دیں۔

گشت کے آداب کا بیان

پھر گشت کی اہمیت ضرورت اور قیمت بتائی جائے، اس کے لئے آمادہ کیا جائے۔ جو تیار ہوں ان کو اچھی طرح آداب سمجھائیں، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے چلنا ہے، نگاہیں پنچی ہوں، ہمارے تمام مسائل کا تعلق اللہ جل شانہ کی ذات سے ہے، ان بازار میں پھیلی ہوئی چیزوں سے کسی مسئلے کا تعلق نہیں، چیزوں پر نگاہ نہ پڑے، دھیان نہ جائے، اگر نگاہ پڑ جائے تو مٹی کے ڈلے معلوم ہوں۔ ہمارا دل اگر ان چیزوں کی طرف پھر گیا تو پھر ہم جن کے پاس جا رہے ہیں ان کا دل ان چیزوں سے اللہ کی طرف کیسے پھرے گا۔ قبر کا داغلہ سامنے ہو، اسی زمین کے نیچے جانا ہے، مل کر چلیں، ایک آدمی بات کرے۔ کامیاب ہے وہ بات کرنے والا جو مختصر بات کر کے آدمی کو مسجد میں بھیج دے۔

بھائی! ہم مسلمان ہیں، ہم نے کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا ہے۔ ہمارا یقین ہے کہ اللہ پالنے والے ہیں۔ لفظ و فسان، عزت و ذلت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم اللہ کے حکم پر حضرت محمد ﷺ کے طریقے پر زندگی گزاریں گے، اللہ راضی ہو کر ہماری زندگی بنادیں گے۔ ہم سب کی زندگی اللہ جل شانہ کے حکم کے مطابق حضرت محمد ﷺ کے طریقے پر آ جائے، اس کے لئے بھائی مسجد میں کچھ فکر کی بات ہو رہی ہے۔ نماز پڑھ چکے ہوں تو بھی اٹھا کر مسجد میں بھیج دیں، ضرورت ہو تو آگے نماز کو بھی مسجد میں فوری جانے کا عنوان بنالیں۔

اللہ کا سب سے بڑا حکم نماز ہے، نماز پڑھیں گے، اللہ روزی میں برکت دے

گا، گناہوں کو معاف فرمادیں گے، دعاوں کو قبول فرمائیں گے، بشارتیں سنائی جائیں، عیدیں نہیں۔ نماز کا وقت جارہا ہے، مسجد میں چلنے، امیر کی اطاعت کرنی ہے، واپسی میں استغفار کرتے ہوئے آتا ہے۔

گشت کا طریقہ

اب آداب کا نماکرہ کرنے کے بعد دعا مانگ کر چل دیں، گشت میں دس آدمی جائیں، مسجد کے قریب مکانات پر گشت کر لیں، مکانات نہ ہوں تو بازار میں گشت کر لیں، جماعت میں زیادہ آدمی ایسے ہوں جو گشت میں اصولوں کی پابندی کر لیں، مسجد میں دو تین آدمی چھوڑ دیں، نئے آدمی زیادہ تیار ہو جائیں تو ان کو بھی سمجھا کر مسجد میں مشغول کر دیں، نئے آدمی تین چار ساتھ ہوں، مسجد میں ایک ساتھی اللہ جل شانہ کی طرف متوجہ ہو کر ذکر و دعا میں مشغول رہے۔ ایک آنے والوں کا استقبال کرے۔ ضرورت ہو تو وضو کرو اک نماز پڑھوادے اور ایک ساتھی آنے والوں کو نماز تک مشغول رکھے۔ اپنی زندگی کا مقصد سمجھائے، پونے گھٹنے گشت ہو۔ نماز سے سات آٹھ منٹ پہلے گشت ختم کر دیں، سب تکبیر اوالی کے ساتھ نماز میں شریک ہوں۔

اجماع میں دعوت

جس ساتھی کے بارے میں مشورہ ہو جائے وہ دعوت دئے یہ سمجھائے کہ اللہ جل شانہ کی ذات عالی سے تعلق قائم ہوا تو دنیا اور آخرت میں کیا نفع ہوگا اور اگر اللہ جل شانہ کی ذات عالی سے تعلق قائم نہ ہوا تو دنیا و آخرت میں کیا نقصان ہوگا، جیسے اس خط کے شروع میں چہ نمبروں کا تذکرہ کیا ہے، اس طرز پر ہر نمبر کا مقصد اس کا نفع اور قیمت اور حاصل کرنے کا طریقہ بتایا جائے، سادہ انداز میں بیان ہو، اس سے انشاء اللہ مجمع کی سمجھ میں کام آئے گا اور اس کی ضرورت بھی محسوس کرے گا اور سمجھے گا کہ ہم بھی

سیکھ سکتے ہیں، ہمارے ساتھی بھی دعوت میں اہتمام سے جم کر بیٹھیں، متوجہ ہو کر اور محتاج بن کر سنیں، جو بات کہہ رہا ہے ہم اپنے دل میں کہیں کہ ”حق ہے“ اس سے دل میں ایمان کی لہریں اٹھیں گی اور عمل کا جذبہ بنے گا۔ تین چلوں کی بات جم کر کرکھی جائے، نقد نام لئے جائیں، اس کے بعد چلوں کے لئے وقت لکھوائے جائیں اور پھر جو جس وقت کے لئے تیار ہو جائے اس کو قول کر لیا جائے۔

مطلوبہ اور تنقیل

مطلوبہ اور تنقیل کے وقت محنت ساری دعوت کا مغزبہ ہے، اگر مطالبوں پر جم کر محنت نہ ہوئی تو پھر کام کی باقی رہ جائیں گی اور قربانی وجود میں نہ آئے گی تو کام کی جان نکل جائے گی، دعوت دینے والا ہی مطالبه کرے، ایک آدمی کھڑے ہو کر نام لکھئے، نام لکھنے والا مستقل تقریر شروع نہ کرے، ایک دو جملے ترغیب کہہ سکتا ہے، پھر آپس میں ایک دوسرے کو آمادہ کرنے کو کہا جائے۔ فکر کے ساتھ اپنے قریب بیٹھنے والوں کو تیار کریں، اعذار کا دل جوئی اور ترغیب کے ساتھ حل بتائیں، نبیوں اور صحابہؓ کی قربانیوں کے قصوں کی طرف اشارے کریں اور پھر آمادہ کریں، آخر میں مقامی جماعت بنا کر ان کے ہفتے کے دو گذشت روزانہ تعلیم، تسبیحات، مہینے کے تین یوم وغیرہ کا نظم طے کرائیں۔

دعوت کا انداز

دعوت میں انبیا علیہم السلام اور صحابہ کرامؐ کے ساتھ اللہ جل شانہ نے جو مددیں فرمائیں ہیں وہ توبیان کی جائیں اور جو ہمارے ساتھ مددیں ہوئیں ان کو بیان نہ کیا جائے۔ دعوت میں فضائے حاضرہ کی باقی نہ کی جائیں۔ امت میں جو ایمانی، عملی، اخلاقی کمزوریاں آچکی ہیں، ان کے تذکرے سے بہتر ہے کہ اصلی خوبیوں کی طرف یعنی جو بات پیدا ہوئی چاہئے اس کی طرف متوجہ کریں۔

تعلیم

تعلیم میں دھیان، عظمت، محبت، ادب اور توجہ کے ساتھ بیٹھنے کی مشق کی جائے، سہارا نہ لگایا جائے۔ باوضو بیٹھنے کی کوشش ہو، طبیعت کے بہانوں کی وجہ سے تعلیم کے دوران نہ اٹھا جائے۔ باتیں نہ کی جائیں، اگر اس طرح بیٹھیں گے تو فرشتے اس مجلس کو ڈھانک لیں گے، اہل مسجد میں طاعت کا مادہ پیدا ہو گا۔ عظمت کی مشق سے حدیث پاک کا وہ نور دل میں آئے گا جس پر عمل کی ہدایت ملتی ہے۔ بیٹھتے ہی آداب اور مقصد کی طرف متوجہ کیا جائے، مقصد یہ ہے کہ ہمارے اندر دین کی طلب پیدا ہو جائے، فضائل قرآن مجید پڑھ کر تھوڑی دیر کلام پاک کی ان سورتوں کی تجوید کی مشق کی جائے جو عموماً نمازوں میں پڑھی جاتی ہیں، التحیات، دعائے قوت وغیرہ کا مذاکرہ تصحیح اجتماعی تعلیم میں نہ ہو، انفرادی سیکھنے سکھانے میں ان کی تصحیح کریں، اللہ پاک توفیق دیں تو ہر کتاب میں سے تین چار صفحے پڑھے جائیں۔ تعلیم میں اپنی طرف سے تقریر نہ ہو، حدیث شریف پڑھنے کے بعد دو تین جملے ایسے کہہ دیئے جائیں کہ اس عمل کا جذبہ و شوق ابھر آئے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا محمد زکریا صاحب دامت برکاتہم کی تالیف فرمودہ، فضائل قرآن مجید، فضائل نماز، فضائل تبلیغ، فضائل ذکر، فضائل صدقات، حصہ اول و دوم، فضائل رمضان، فضائل حج (ایام حج و رمضان میں) اور مولانا احتشام الحسن صاحب کا نذر حلوی دام مجددہ کی "مسلمانوں کی موجودہ پستی کا واحد علاج" صرف یہ کتابیں ہیں جن کو اجتماعی تعلیم میں پڑھنا اور سننا ہے اور تنہایوں میں بیٹھ کر بھی ان کو پڑھنا ہے۔ کتابوں کے بعد چھ نمبروں کا مذاکرہ ہو۔ ساتھیوں سے نمبر بیان کرائے جائیں۔ جب تعلیم شروع کی جائے تو اپنے میں سے دوسرا تھیوں کو تعلیم کے گشت کے لئے بیسیج دیا جائے۔ ۱۵-۲۰ منٹ بعد وہ ساتھی آ جائیں تو دوسرے دو ساتھی چلے جائیں۔ اس طرح بستی والوں کو تعلیم میں شریک کرنے کی کوشش ہوتی رہے۔ باہر نکلنے

کے زمانے میں روزانہ صبح اور بعد ظہر دونوں وقت تعلیم دو تین گھنٹے کی جائے اور اپنے مقام پر روزانہ اسی ترتیب سے ایک گھنٹہ تعلیم ہو یا ابتداء، جتنی دیر احباب جزویں۔

مشورہ

کام کے تقاضوں کو سوچنے، ان کی ترتیب قائم کرنے، ان تقاضوں کو پورا کرنے کی شکلیں بنانے میں اور جو احباب اوقات فارغ کریں ان کی مناسب تشکیل میں اور جو مسائل ہوں ان کے لئے احباب کو مشورہ میں جوڑا جائے، اللہ جل شانہ کے دھیان اور فکر کے ساتھ دعا نئیں مانگ کر مشورہ میں بیٹھیں۔ مشورے میں اپنی رائے پر اصرار اور عمل کرانے کا جذبہ نہ ہو اس سے اللہ کی مدد میں ہٹ جاتی ہیں۔ جب رائے طلب کی جائے امانت سمجھ کر جو بات اپنے دل میں ہو کہہ دی جائے۔ رائے رکھنے میں نرمی ہو، کسی ساتھی کی رائے سے مقابل کا طرز نہ ہو۔ میری رائے میں میرے نفس کے شروع شامل ہیں، یہ دل کے اندر خیال ہو، اگر فیصلہ کسی دوسری رائے پر ہو گیا تو اس کی خوشی ہو کہ میرے شرود سے خلافت ہو گئی اور اگر اپنی رائے پر فیصلہ ہو جائے تو خوف اور زیادہ دعا نئیں مانگی جائیں۔ ہمارے ہاں فیصلے کی بنیاد کثرت رائے نہیں ہے اور ہر معاملہ میں ہر ایک سے رائے لینا بھی ضروری نہیں ہے۔ دل جوئی سب کی ضروری ہے۔ امیر کو اس بات کا یقین ہو کہ ان احباب کی فکر اور عمل کر بیٹھنے کی برکت سے اللہ جل شانہ صبح بات کھول دیں گے۔ امیر اپنے آپ کو مشورے کا محتاج سمجھے۔ رائے لینے کے بعد غور و فکر سے جو مناسب سمجھ میں آتا ہو وہ کہہ دے، بات اس طرح رکھے کہ کسی کی رائے کا استخفاف نہ ہو، اگر طبیعتیں مختلف ہوں تو اس بات پر شوق و رغبت کے ساتھ آمادہ کر لے اور ساتھی امیر کی بات پر اپیے شوق سے چلیں جیسے کہ ان کی ہی رائے طے پائی ہے، اسی میں تربیت ہے، اگر اس کے بعد عملاً ایسی شکل نظر آئے کہ ہماری رائے ہی زیادہ مناسب تھی پھر بھی ہرگز طعنہ نہ دیا جائے یا اشارہ کنایہ بھی نہ کیا جائے۔ اسی میں

خیر کا یقین کیا جائے۔ جو امروں کو طعنہ دے، اس کے لئے سخت وعدہ آئی ہے۔

ہفتہ واری اجتماع

جب مخلوں کی مساجد میں ہفتوں کے دو گشتوں کے ذریعے فی گھر ایک آدمی تین چلے کے لئے نکلنے کی آواز لگ رہی ہوگی، نکالنے کی کوششیں ہو رہی ہوں گی تو شب جمعہ کا اجتماع صحیح نجح پر ہو گا اور کام کے بڑھنے کی صورتیں بنیں گی۔ جمرات کو عصر کے وقت سے مخلوں کی مساجد کے احباب اپنی اپنی جماعتوں کی صورت میں بستر اور کھانا ساتھ لے کر اجتماع کی جگہ پر پہنچیں، مشورے سے ایسے احباب سے عموماً دعوت دلوائی جائے جو محنت کے میدان میں ہوں اور جن کی طبیعت پر کام کے تقاضے غالب ہوں، بہت ہی فکروں اہتمام سے تشكیلیں کی جائیں، اگر اوقات وصول نہ ہوں تورات کو بھی محنت کی جائے۔ رو رو کرمانگا جائے۔ صحیح کو جماعتوں کی تکمیل کر کے ہدایات دے کر روانہ کیا جائے۔ تین دن کی مخلوں سے تیار ہو کر آئی ہوئی جماعتیں عموماً سات آٹھ میل تک پہنچی جائیں۔ ہر شب جمعہ سے تین چلوں اور چلوں کی جماعتوں کے نکلنے کا رخ پڑنا چاہئے، اگر شب جمعہ میں خدا نخواستہ سب تقاضے پورے نہ ہو سکے تو سارے ہفتے اپنے مخلوں میں، پھر اس کے لئے کوشش کی جائے اور آئندہ شب جمعہ میں مخلوں سے تقاضوں کے لئے لوگوں کو تیار کر کے لاایا جائے۔

کام کی نزاکت اور اس کا اعلان

بھائی دوستو! یہ کام بہت نازک ہے، حضور اقدس ﷺ نے ایک محنت فرمائی، اس محنت سے سارے انسانوں کی ساری زندگی کے کمانے، کھانے، بیاہ شادی میں ملاقات اور عبادات، معاملات وغیرہ کے طریقوں میں کمل تبدیلیاں آئیں تو آپ نے خود اس محنت کے کتنے طریقے بتائے ہوں گے، ہمیں ابھی یہ کام کرنا نہیں آتا اور نہ

ابھی حقیقی کام شروع ہوا ہے۔ کام اس دن شروع ہو گا جب ایمان و یقین، اللہ کی محبت، اللہ کے دھیان، آخوت کی فکر، اللہ کے خوف و خشیت، زہد و تقویٰ سے بھرے ہوئے لوگ حضور ﷺ کے عالی اخلاق سے مزین ہو کر اللہ کی رضا کے جذبے سے مخور ہو کر اللہ کی راہ میں جان دینے کے شوق سے کھپج کھپج پھریں گے۔ حضرت عمر قرماتے ہیں:

”اللہ رحم کرے حضرت خالد پر اس کے دل کی تمنا صرف یہ تھی کہ حق اور حق والے چمک جائیں اور باطل والے مٹ جائیں اور کوئی تمنا ہی نہ تھی۔“

ابھی جو ہم کو کام کی برکتیں نظر آ رہی ہیں، وہ کام شروع ہونے سے پہلے کی برکتیں ہیں۔ جیسے حضور اقدس ﷺ کی ولادت کے وقت سے ہی برکتوں کا ظہور شروع ہوا تھا، لیکن اصل کام اور اصل برکتیں چالیس سال بعد شروع ہوئیں۔ ابھی تو اس کے لئے محنت ہو رہی ہے کہ کام کرنے والے تیار ہو جائیں۔ اللہ جل شانہ کام ان سے لیں گے اور ہدایت پھیلنے کا ذریعہ ان کو بنائیں گے جن کی زندگی اپنی دعوت کے مطابق بدے گی؛ جن کی زندگیوں میں تبدیلی نہ آئے گی، اللہ جل شانہ ان سے اپنے دین کا کام نہ لیں گے، یہ نبیوں والا کام ہے۔

اصول اور صحبت

اس کام میں اگر اپنے آپ کو اصول سمجھنے کا محتاج نہ سمجھا گیا اور اصولوں کے مطابق کام نہ ہو تو سخت فتنوں کا خطرہ ہے، حضور اکرم ﷺ نے جب باہر ملکوں میں کام شروع کرنے کا ارادہ فرمایا تو پہلے تمام صحابہ کرامؐ کو تین دن تک ترغیب دی اور پھر فرمایا کہ: جس طرز پر یہاں کام ہو، بالکل اسی طرز پر باہر جا کر بھی کام کرنا ہے۔ اس کام کی نوعیت یہی ہے۔ مقام، زبان، معاشرت، موسم وغیرہ کے اعتبار سے اس کام کے اصول نہیں بدلتے، اس کام کی نجی اور اصولوں کو سمجھنے اور ان پر قائم رہنے کے لئے اس فضائیں آنا اور بار بار آتے رہنا انتہائی ضروری ہے، جہاں حضرتؐ (مولانا محمد الیاسؒ) نے

جان کھپائی تھی اور ان کے ساتھ اخلاط بھی بہت ضروری ہے جو اس جدوجہد میں حضرت[ؐ] کے ساتھ تھے اور جب سے اب تک اس فضائیں اور کام میں مسلسل لگے ہوئے ہیں، اس کے بغیر کام کا اپنے نجح اور اصولوں پر قام رہنا بظاہر ممکن نہیں، اس لئے اپنے کام کرنے والے احباب کو ایسی فضائیں اہتمام سے نوبت بہ نوبت بھیجتے رہیں۔

نقشوں کے بجائے مجاہدہ

تمام انبیاء علیہم السلام اپنے اپنے زمانے میں کسی نہ کسی نقشے کے مقابلہ پر آئے اور بتایا کہ کامیابی کا اس نقشے سے بالکل تعلق نہیں ہے۔ کامیابی کا تعلق براہ راست اللہ جل شانہ کی ذات عالی سے ہے۔ اگر عمل ٹھیک ہوں گے۔ اللہ جل شانہ چھوٹے نقشے میں بھی کامیاب کر دیں گے اور عمل خراب ہوں گے اللہ جل شانہ بڑے سے بڑے نقشے کو توڑ کرنا کام کر کے دکھائیں گے۔ کامیاب ہونے کے لئے اس نقشے میں عمل ٹھیک کرو ہر نبی نے اپنے راجح الوقت نقشے کے مقابلے پر محنت کی اور حضرت محمد ﷺ تمام اکثریت حکومت مال، زراعت اور صنعت کے نقشوں کے مقابلے پر تشریف لائے، آپ کی محنت ان نقشوں سے نہیں چلی، آپ کی محنت، مجاہدوں اور قربانیوں سے چلی ہے باطل تفییش کے نقشے سے پھیلتا ہے تو حق تکلیفیں اٹھانے سے پھیلتا ہے باطل ملک و مال سے چمکتا ہے تو حق فقر و غربت کی مشقوں میں چمکتا ہے، جتنے فتنے ملک و مال اور تفییش کی بنیاد پر لائے جارہے ہیں ان کا توڑ حق کے لئے فقر و غربت اور تکالیف برداشت کرنے میں ہے، اب اس کام کے ذریعہ امت میں مجاہدہ اور قربانی کی استعداد پیدا کرنی ہے۔ اس کام کے لئے بہت بڑا خطرہ یہ ہے کہ اس کو نقشوں پر منحصر کر دیا جائے، اس سے کام کی جان نکل جائے گی۔ اس کام کی حفاظت اس میں ہے کہ کام کرنے والے اس کام کے لئے تمام میر نقشوں کو بھی قربان کرتے ہوئے مجاہدے والی شکلوں کو قائم رکھیں اور کسی صورت میں مجاہدے والی شکلوں کو ختم نہ ہونے دیں۔ غریبوں میں

اپنی محنت کو بڑھایا جائے، پیدل جماعتیں چلائی جائیں، لوگ آئیں گے کہ یہ ہمارا پیسہ دین کے کام میں خرچ کر لیجئے، پھر نقشہ کی قربانی دینی ہوگی، کہد تجھے کہ جناب یہاں اس کام میں خرچ کرنے کا صحیح اور پاک طریقہ و جذبہ سکھایا جاتا ہے، پھر محل تلاش کر کے خود ہی خرچ کر دیجئے گا۔ یہاں تو طریقہ سیکھ لیجئے۔

اس کام کی تعیم کے لئے رواجی طریقوں، اخبار، اشتہار پر لیں وغیرہ اور رواجی الفاظ سے بھی پورے پرہیز کی ضرورت ہے، یہ کام سارا غیر رواجی ہے، رواجی طریقوں سے رواج کو تقویت پہنچیں، اس کام کو نہیں۔

اصل کام کی شکلیں، دعوت، گشت، تعلیم، تکمیل وغیرہ ہیں، مشوروں کی ضرورت ہو تو مناسب دوستوں کو الگ کر کے مشورہ کر لیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ مشورہ کرنے والوں کا کسی موقع پر عموی اعمال سے جوڑ نہ رہے۔

کالج کے طلباء میں دعوتی کام

کالجوں کے طلباء میں اس کام کو اٹھایا جائے، ہو شلوں میں مقامی کام کے لئے جماعتیں بنائی جائیں۔ ایک گشت ہو شل والے اپنے ہو شل میں کریں۔ قریب کے محلوں کی جماعتیں بھی ہو شلوں میں جا کر گشت کریں۔ ہو شل والے احباب اپنی روزانہ تعلیم اور مہینے میں تین یوم کی ترتیب بھی اٹھائیں۔

مستورات میں کام کی نوعیت

مستورات میں کام کی نزاکتیں اور بھی زیادہ ہیں، جبکہ بے پر دگی کا احتمال ہو عام اجتماعات میں مستورات کو بالکل نہ لایا جائے، اپنے اپنے محلے میں کسی پر دہ دار مکان میں قریب قریب کے مکانات سے عورتیں کسی روز جمع ہو کر تعلیم کر لیا کریں، اس کی ابتداء اس طرح کریں کہ مرد جو بات اجتماعات، دعوت، تعلیم وغیرہ سے سن کر جائیں،

اپنے گھروالوں کو سنا کیں، اس سے انشاء اللہ تھوڑے عرصے میں ذہن بننا شروع ہو جائے گا، پھر مخلوں میں تعلیم شروع ہونے کے بعد ایسا ہو سکتا ہے کہ سارے شہر کی مستورات کا ہفتے میں ایک ایسی جگہ اجتماع ہو جہاں پر وہ کا اہتمام ہو، وہاں تعلیم کے بعد پھر کوئی آدمی پر دے کے ساتھ بیان کرے۔ کبھی کبھی ایک یوم یا تین یوم کے لئے قرب و جوار کے لئے جماعتیں بنائی جائیں، مستورات کی جماعت کے ساتھ ان کے خاوند ہوں، ورنہ عورت کے ساتھ اس کا شرعی حرم ساتھ ہو، پر دے کے ساتھ جائیں، پر وہ دار مکان میں ٹھہریں، مرد مسجد میں ٹھہر کر کام کریں۔

آخری بات

حضور اقدس ﷺ نے جن مقامات سے محنت اٹھائی تھی، انہی مقامات کے لوگوں کو اس محنت پر اٹھانے اور انہی راستوں سے اللہ کی راہ کی ملکوں والی نقل و حرکت کے زندہ ہونے کا ذریعہ یہ عمرے کا سفر بن سکتا ہے، ہر جگہ کے پرانوں سے اخلاط اور اس کام میں یک جھنی پیدا ہونے اور اصولوں کے تفصیل سے سامنے آنے کا یہ بہترین موقع ہے۔

یہ خط کچھ اصول لکھنے کی کوشش میں طویل ہو گیا، آپ حضرات اس کے ہر جز اور ہر لفظ کو غور سے پڑھنے کی کوشش فرمائیں گے تو انشاء اللہ بہت زیادہ نفع کی توقع ہے، آپ حضرات اپنے بیہاں کے حالات سے ہر پندرھویں روز مطلع فرمادیا کریں تو ہمیں تقویت ہوتی رہے، تمام احباب کو سلام مسنون۔ فقط والسلام بند محمد یوسف غفرلہ۔

راہِ خدا میں نکلنے والی تبلیغی جماعتوں کو

الوداعی پیغام وہدایات

مولانا محمد یوسف صاحب ہر اجتماع کے خاتمه پر ایک جامع ہدایت نامہ رخصت ہونے والی جماعتوں کے سامنے پیش کرتے اور دریتک تفصیلی ہدایات پر تقریر فرماتے، گویا یہ مولانا کی آخری تقریر ہوتی، اس کے بعد دعا فرماتے، مولانا نے بے شمار اجتماعات میں ہدایات پر مشتمل تقریریں فرمائی ہیں جن کا احاطہ کرنا مشکل بھی ہے اور تحسیل حاصل بھی، اندازہ کرنے کے لئے صرف ایک اجتماع کے ختم پر جو ہدایات فرمائی تھیں، وہ پیش کی جاتی ہیں۔

یہ اجتماع مگر اہاث میں (جو گلکتے کے نواح میں واقع ہے) ہوا تھا۔ آخری دن جب جماعتوں کی تشكیلیں مکمل ہو گئیں اور جماعتوں کے رخصت ہونے کا وقت آیا تو مولانا نے حسب معمول آخری اور الوداعی تقریر فرمائی جو ساری کی ساری ہدایات پر مشتمل تھی، مولانا منظور صاحب نعمانی نے اس تقریر کو اشارات میں قلم بند کر لیا تھا اور بعد میں مرتب کر لیا تھا، مولانا موصوف کا کہنا ہے:

”اس میں جو کچھ ہے وہ مضمون کی حد تک حضرت مولانا مرحوم کا ہے لیکن الفاظ کے بارے میں یہ بات نہیں کہی جاسکتی“۔

رقم سطور نے اس تقریر میں ضمنی عنوانات لگادیئے ہیں تاکہ تقریر کے سارے حصے بآسانی سمجھ میں آ جائیں اور ذہن نشین ہونے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔

خطبہ مسنونہ کے بعد مولانا نے فرمایا:

”آقاب نورانی ہے۔ اس کے اندر نور ہے، وہ اپنے نور کے ساتھ چکر لگاتا ہے تو دنیا میں نور پھیلاتا ہے۔ اگر بجائے نورانی کے وہ خود ظلماتی ہوتا اور اس میں نور

کے بجائے ظلمت ہوتی تو وہ دنیا میں ظلمت پھیلانے کا ذریعہ بنتا۔ آپ لوگ اپنے گھر چھوڑ کر نکل رہے ہیں اور دور قریب کی دنیا میں پھریں گے۔ اگر آپ میں نور ہو گا تو آپ کے ذریعے نور پھیلے گا اور اگر آپ کے اندر ظلمت ہو گی تو وہی ظلمت پھیلے گی، اس لئے آپ کو کوشش کرنی ہے کہ آپ کے اندر نور ہو اور آپ خود نورانی بنیں۔ کی انسان کی ذات میں نور نہیں ہے۔ نور والے اعمال سے انسان میں نور آتا ہے، اس لئے آپ لوگوں کو نور والے اعمال کرنے ہیں تاکہ آپ کے اندر نور آئے اور آپ کے ذریعے نور پھیلے اور ظلمت والے اعمال سے اپنے آپ کو بچانا ہے تاکہ آپ ظلمت پھینے کا ذریعہ نہ بنیں۔

نور والے اعمال

نور والے اعمال وہ محمدی اعمال ہیں جو اللہ کی رضا کے لئے کئے جائیں۔ ان اعمال کو اتنی کثرت سے اور تسلسل اور یکسوئی کے ساتھ کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ ان کے نورانی رنگ میں رنگ جائیں، وہ نورانی اعمال یہ ہیں:

۱۔ اخلاص کے ساتھ، ایمان و یقین حاصل کرنے کی دعوت جو انبیاء علیہم السلام کی خاص میراث اور اللہ کی مخلوق کے ساتھ سب سے بڑی خیرخواہی ہے۔

۲۔ نماز اور جملہ عبادات جس میں ذکر و تلاوت، دعا و استغفار سب شامل ہیں۔

۳۔ علم میں مشغولیت، خاص کروہ علم جس میں انسانوں کے اعمال و افعال کے آخرت میں ظاہر ہونے والے نتائج کا بیان ہو یعنی ترغیب و ترهیب۔

۴۔ اچھے اخلاق جو حضرت محمد ﷺ کے اخلاق تھے اور جن کی آپ نے تعلیم دی جس کا خلاصہ اور حاصل ہے اللہ کی رضا کے لئے اس کی مخلوق کی خدمت اور اس کے ساتھ اچھا برتاب۔

یہ ہیں وہ نورانی اعمال جن کے مسلسل اور کثرت سے کرنے سے نور پیدا ہوتا

ہے اور زندگی نورانی بنتی ہے، آپ کو انہی اعمال میں مشغول رہتے ہوئے پھرنا ہے۔

دوشمن

یاد رکھئے! آپ صرف اپنے گھر، اپنے گھروالوں اور اپنے خاص ماحول کو چھوڑ کر جا رہے ہیں، نفس اور شیطان کو چھوڑ کر نہیں جا رہے ہیں۔ یہ دونوں دشمن ہر قدم پر اور دن رات آپ کے ساتھ رہیں گے۔ آپ کی بری عادتیں بھی آپ کے ساتھ جا رہی ہیں، یہ سب چیزیں آپ کو ان اعمال کی طرف کھینچیں گی، جن سے آپ میں ظلمت آئے اور آپ خدا سے دور اور اس کی رضا سے محروم ہوں۔

دشمنوں سے حفاظت کا طریقہ

آپ ان دشمنوں کے شر سے صرف اس طرح فجع سکتے ہیں کہ اس بات کا پورا اہتمام کریں کہ سونے کے چھسات گھنٹوں کے علاوہ دن رات کے تمام اوقات میں اپنے کو ان نورانی اعمال میں مشغول رکھیں یا آپ ایمان کی یا ایمان والے اعمال کی دعوت دیتے ہوں، یا نماز اور ذکر تلاوت وغیرہ کسی عبادت میں مشغول ہوں یا تعلیم و تعلم میں لگے ہوں یا کوئی خدمت والا کام انجام دے رہے ہوں۔

نفس اور شیطان کے شر سے بچنے کی صرف یہی صورت ہے کہ آپ کا وقت ان کاموں سے فارغ اور خالی نہ ہو:

”خانہ خالی رادیومی گیرہ۔“

رضاۓ الٰہی

پھر یہ اعمال بھی نور حاصل ہونے کا ذریعہ اسی صورت میں بنیں گے جب کہ صرف اللہ کی رضا اور آخرت کے ثواب پر نگاہ رکھتے ہوئے کئے جائیں۔ اگر خدا نخواستہ نیت خالص نہ رہی تو یہی اعمال جہنم میں کھینچ لے جائیں گے۔ حضرت

ابو ہریرہؓ کی مشہور حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا:

”قیامت میں سب سے پہلے تین آدمیوں کے بارے میں جہنم کا فیصلہ ہوگا اور جہنم میں سب سے پہلے انہیں کو جھونکا جائے گا۔ ان میں ایک وہ عالم دین اور عالم قرآن ہوگا جو عمر بھر قرآن سیکھنے سکھانے میں مشغول رہا۔ دوسرا ایک دولت مند چنی ہوگا جس کو دنیا میں اللہ نے خوب دولت سے نوازا تھا اور وہ اللہ کی دی ہوئی دولت کو نیکی کے کاموں میں خوب کشادہ دستی سے خرچ کرتا تھا اور تیرا شخص ایک شہید ہوگا جو جہاد کے میدان میں دشمن کی تلواروں سے شہید ہوا ہوگا۔ لیکن ان تینوں آدمیوں نے یہ اعمال خالصتًا لوجه اللہ تھیں کئے تھے، بلکہ دنیا میں نام و ری اور شہرت و عزت حاصل کرنے کے لئے کئے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ: قیامت کے دن جب یہ تینوں قسم کے آدمی اللہ تعالیٰ کے حضور میں پیش ہوں گے تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ ہم دلوں اور نیتوں کا حال جانتے ہیں، تم لوگوں نے یہ اچھے اور نورانی اعمال ہماری رضا کے لئے تھیں کئے تھے بلکہ دنیا میں نام و ری اور شہرت کے لئے کئے تھے اور یہ چیز تھیں دنیا میں مل چکی، اب تمہارے لئے یہاں کچھ نہیں، اس کے بعد ان کو ان کے انہی اعمال کی وجہ سے گھسیٹ کر جہنم میں پھینکوادیا جائے گا، بلکہ حدیث میں یہ بھی ہے کہ یہ پہلے وہ جہنمی ہوں گے جن کے لئے سب سے پہلے جہنم کا فیصلہ کیا جائے گا۔ (العیاذ باللہ)

سوچئے تو کس قدر لزورہ دینے والی ہے یہ حدیث، حضرت ابو ہریرہؓ اس حدیث کو روایت فرماتے تو بھی بھی مارے خوف کے ان کی چیزوں نکل جاتیں اور ان پر بے ہوشی کا دورہ پڑ جاتا تھا اور ایک دفعہ جب ایک تابی نے بھی یہی حدیث حضرت ابو ہریرہؓ سے سن کر حضرت معاویہؓ کے سامنے نقل کی تو حضرت معاویہؓ اتنا روئے کہ لوگوں کو ان کی جان کا خطرہ ہو گیا۔ بہت دیر کے بعد ان کی حالت ٹھیک ہوئی اور انہوں نے فرمایا:

”صدق الله ورسوله من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوف اليهم
اعمالهم فيها وهم فيها لا يحسون، اولئك الذين ليس لهم في
الآخرة الا النار وحطط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون“۔

ترجمہ:...”اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں سچ فرمایا ہے اور اس کے رسول ﷺ نے اللہ کی طرف سے بالکل صحیح پہنچایا ہے کہ جو کوئی اپنے اعمال سے دنیا اور دنیا کی زیب وزینت چاہے گا اس کو اس کے اعمال کا پورا نتیجہ دنیا میں ہم دے دیں گے اور اس کے لئے اس میں بالکل کمی نہیں کی جائے گی۔ ان لوگوں کے لئے آخرت میں سوائے دوزخ کی آگ کے اور کچھ نہ ہو گا اور جو عمل انہوں نے کئے تھے وہ ضائع جائیں گے اور بے کار اور لا حاصل ہوں گے۔“

بہر حال نورانی اعمال نور پیدا کرنے کا ذریعہ اسی صورت میں ہو سکتے ہیں جبکہ وہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لئے اور آخرت کے لئے کئے جائیں۔ اس لئے آپ کو ایک طرف تو اپنے تمام اوقات انہی اعمال میں مشغول رکھنے ہیں اور دوسرا طرف اس کا بھی اہتمام کرنا ہے کہ نیت صحیح رہے۔ شیطان جب کسی بندے کو اچھے عمل سے ہٹانہیں سکتا تو اس کی نیت میں فساد ڈالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اللہ والے عمل اگر غیر اللہ کے لئے کئے جائیں تو ان میں اللہ والی نسبت نہیں رہتی اور اگر اللہ کی رضا کے لئے وہ اعمال کئے جائیں جو درحقیقت رضا والے اعمال نہیں ہیں تو ان میں اللہ کی نسبت نہیں آتی اور وہ رضاۓ الہی کا وسیلہ نہیں بنتے، اس لئے دونوں کوششیں ضروری ہیں۔ ایک اللہ کی رضا والے اعمال میں مشغولیت، ہمہ دم ایسی مشغولیت کہ ان کا رنگ چڑھ جائے۔ دوسرے نیت کی صحیت کا اہتمام، جس کا مطلب یہ ہے کہ ہر عمل سے مقصد اللہ کی رضا ہو ساری کامیابی بس اللہ کی رضا میں ہے اور اس کی ناراضی میں تمام ناکامی اور نامرادی ہے۔

اصل کام صرف چار

میں بتاچکا ہوں کہ اس نکلنے کے زمانے میں بس اپنے آپ کو چار کاموں میں مشغول رکھنا ہے۔

۱- سب سے پہلی چیز ہے ایمان و یقین کی اور ایمان والے اعمال کی دعوت، اس دعوت کے لئے عمومی گثت ہوں گے، خصوصی گثت ہوں گے جن کے اصول و آداب گثت کے لئے نکلتے وقت بتلانے جائیں گے، ان کو دھیان سے سنا جائے، پھر جب آپ دعوت کے لئے گلیوں اور بازاروں میں نکلیں گے تو شیطان آپ کو وہاں کے نقشوں کی طرف متوجہ کرے گا۔ اس لئے سب سے پہلے دعا کرنی چاہیئے کہ اللہ تعالیٰ شیطان نفس کے شر سے بچائے اور اپنی مرضی کے مطابق کام کرنے کی توفیق دئے پورے گثت میں اس کا اہتمام رہے کہ بس اللہ کے جلال اور جمال پر، اس کی صفات عالیہ پر نظر رہے، نگاہیں نیچی رہیں اور اپنا مقصد زگاہ کے سامنے رہے، جس طرح جب کسی مریض کو اپنی اسپتال لے کر جاتے تو خود مریض اور اس کے ساتھی اپنی اسپتال کی عالیان عمارت کو اور وہاں کے نقشوں کو دل چھپی سے نہیں دیکھتے، بلکہ ان کے سامنے بس مریض کا علاج ہوتا ہے۔

خصوصی گثت میں اگر دیکھا جائے کہ وہ صاحب جن سے آپ ملنے گئے ہیں اس وقت توجہ سے بات سننے کو تیار نہیں ہیں تو مناسب طریقے سے جلدی جلدی بات ختم کر کے ان کے پاس سے اٹھا آنا چاہیئے اور ان کے لئے دعا کرنی چاہیئے اور اگر دیکھا جائے کہ وہ صاحب متوجہ ہیں تو پھر پوری بات ان کے سامنے رکھنی چاہیئے اور وقت فارغ کرنے کے لئے بھی کہنا چاہیئے۔

خصوصی گثت میں جب دینی اکابر کی خدمت میں حاضری ہو تو ان سے صرف دعا کی درخواست کی جائے اور ان کی توجہ دیکھی جائے تو کام کا کچھ ذکر کر دیا جائے،

عمومی گشت کر کے لوگوں کو مسجد میں جمع کیا جائے اور ان کے سامنے ایمان و یقین، نماز، ذکر اللہ، علم دین، اخلاق اور دینی جد و جہد کی بات رکھی جائے اور تنظیل کی کوشش کی جائے، پھر تنظیل کر کے مطمئن نہ ہو جائیں، بلکہ جن لوگوں نے وعدے کئے ہیں اور نام لکھوائے ہیں ان کو اللہ کے راستے میں نکال دینے اور وعدوں کو عمل میں لے آنے کی پوری کوشش کریں اور اپنے امکان بھراں کا انتظام کریں کہ ان کا وقت اچھی طرح گزرے۔ جو لوگ اس وقت نکلنے کا فیصلہ نہ کر سکیں تو ان کو مقامی گشت، مقامی اجتماعی تعلیم، ذکر اور نماز کی پابندی پر آمادہ کیا جائے اور ان کا مموں کا نظام بنادیا جائے۔

جب دعوت کے سلسلے کی یہ ساری محنت کر چکیں تو اس کسان کی طرح جوز میں میں شیخ بکھیرتا ہے اور پھر اللہ سے لوگاتا ہے، پورے الاحاج کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں وہی مقلب القلوب ہے، وہی جس کو چاہے ایمان اور ایمان والے اعمال دیتا ہے اور جس کے لئے نہیں چاہتا اس کو محروم رکھتا ہے۔

۲- دعوت کے بعد دوسرا کام تعلیم کا ہے جب تعلیم کے لئے بیٹھیں تو ادب سے بیٹھیں، ول رسول اللہ ﷺ کے لائے ہوئے علم کی عظمت سے دبا ہوا ہو، فضائل کا مذاکرہ ہو، حضور ﷺ کی تعلیم فرمائی ہوئی دعائیں یاد کی جائیں۔

۳- جو وقت دعوت اور تعلیم سے خالی ہو اور کوئی دوسرا ضروری کام بھی اس وقت نہ ہو اس میں نوافل پڑھ جائیں یا قرآن مجید کی تلاوت کی جائے یا ذکر و تسبیح میں مشغول کیا جائے۔ یا اللہ کے کسی بندے کی خدمت کی جائے۔

جس طرح نماز میں آدمی قیام میں ہوتا ہے یا رکوع میں یا سجدے میں یا قعدہ میں، اسی طرح اللہ کے راستے میں نکلنے کے بعد آدمی یادِ دعوت میں لگا ہو یا تعلیم اور تعلم میں یا ذکر و عبادت میں یا اللہ کی کسی مخلوق کی خدمت میں۔۔۔ یہ چار کام اس پورے زمانے میں بطور اصل مقصد کے لئے کئے جائیں گے اور اتنے کئے جائیں گے کہ یہی

عادت و مزاج بن جائے۔

یہ اجتماعی بھی کے جائیں گے اور انفرادی بھی، اجتماعی سے مطلب وہ ہے جو جماعتی نظام کے تحت ہو، جیسے خصوصی گشت اور عمومی گشت دعوت اور جماعت کی تعلیم کے وقت میں تعلیم اور جماعت کے ساتھ فرض نمازیں اور ان کے آگے پیچھے کی سنتیں اور اجتماعی تقسیم کار کے مطابق کھانے وغیرہ کے انتظامات کی دوڑ دھوپ۔ یہ سب اجتماعی اعمال ہیں۔ انفرادی دعوت، انفرادی تعلیم، انفرادی عبادت اور انفرادی خدمت وہ ہو گی جو جماعتی پروگرام کے علاوہ کوئی شخص اپنے اس خالی وقت میں کرے جس میں کوئی اجتماعی کام نہیں ہے، مثلاً دوپھر کے کھانے کے بعد ظہرتک کوئی جماعتی کام دعوت یا تعلیم وغیرہ کا نہیں ہے، ہر شخص کو اجازت ہے کہ وہ اس میں آرام کرے۔ اب اگر کوئی اللہ کا بندہ اپنے اس وقت میں آرام کرنے کے بجائے کسی شخص کے پاس جا کر دعوت ایمان کی باتیں کرے یا کسی اللہ کے بندے کو کوئی دعا یاد کرائے یا اس کی نماز صحیح کرائے یا مسجد کے کسی کونے میں کھڑے ہو کر نوافل پڑھنے لگے یا کسی ساتھی کی کوئی خدمت کرنے لگے تو سب صورتیں انفرادی عمل کی ہوں گی۔ بہر حال اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں یہ چار کام اصل مقصد کے طور پر کئے جائیں اور حاجات بشری کے علاوہ اپنے کل اوقات ان ہی کاموں میں مشغول رکھے جائیں، تب ان کی زندگی میں نور آئے گا اور پھر انشاء اللہ وہ نور متعددی ہو گا اور پھیلے گا۔

چارنا گزیر ضرورتیں

ان چار کاموں کے علاوہ چار ہی کام ناگزیر ضرورت کے طور پر کئے جائیں گے اور صرف بقدر ضرورت ہی کئے جائیں گے، وہ چار یہ ہیں:

۱- کھانا پینا، ۲- قضاء حاجت،

۳- سونا، ۴- باہم بات چیت کرنا۔

یہ ناگزیر ضرورتیں ہیں، ان کو بس اتنا ہی وقت دیا جائے جتنا ضروری اور ناگزیر ہوئے سونے کے لئے دن رات میں بس چھ گھنٹے کافی ہیں۔

چار باتیں جن سے رکا جائے

چار باتیں وہ ہیں جن سے پورے اہتمام کے ساتھ بچا جائے۔

۱- کسی سے سوال نہ کیا جائے، بلکہ کسی کے سامنے اپنی کوئی ضرورت ظاہر بھی نہ کی جائے، یہ بھی ایک طرح کا سوال ہی ہے۔

۲- اشراف سے بھی بچا جائے، اشراف یہ ہے کہ زبان سے تو سوال نہ کرنے لیکن دل میں کسی بندے سے کچھ حاصل ہونے کی طبع ہو، گویا مجائز بان کے دل میں سوال ہو۔

۳- اسراف سے بچا جائے، اسراف یعنی فضول خرچی ہر حال میں معیوب اور مضر ہے، لیکن اللہ کے راستے میں نکلنے کے زمانے میں اس کے نتیجے اپنے حق میں بھی بہت برے ہوتے ہیں، اور دوسرا ساتھیوں کے حق میں بھی۔

۴- بغیر اجازت کسی ساتھی کی بھی کوئی چیز نہ استعمال کی جائے، بعض اوقات دوسرے آدمی کو اس سے بڑی ایذا پہنچتی ہے اور شرعاً یہ قطعاً حرام ہے، ہاں اس سے اجازت لے کر استعمال کرنے میں کوئی مضافات نہیں۔

بس یہ ہیں ضروری باتیں جن کی پابندی اس راستے میں نکلنے والوں کے لئے ضروری ہے اور آپ لوگوں کے ۲۲ گھنٹے ان پابندیوں کے ساتھ گزرنے چاہئیں، ان اعمال کی پوری پابندی کرتے ہوئے آپ اللہ کی زمین اور اللہ کی مخلوق میں پھریں اور اپنے لئے اور پوری امت مسلمہ کے لئے اور عام انسانوں کے لئے اللہ سے ہدایت مانگیں۔ بس یہی آپ کا عمل اور آپ کا وظیفہ ہو۔ اگر آپ نے ایسا کیا تو اللہ تعالیٰ جو ارحم الراحمین ہے، ہرگز محروم نہیں رکھے گا۔